



www.iu.edu.sa

sWdI Arb
wCc i=xa m&{aly
;Slaimk
iv+viv†aly •mdIna
munVvra-
vE}aink Anus&.an
s&S!a

; Slam ke Arkan

ihNdI Anuvad

ABdu]Vvab pu{
ABdulvHhab `>an
KHANTAWWAB @ Yahoo.co.in
s&=o•n^
s:d Ahmd hyat mu=rRf>I

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد:

;SlamI i=xaAo& ke p/car AOr p/sar ka, ;Slam kI hk>Ik>t AOr vaStivKta ko byan krne, .mR ke Arkan Aiva St&-o& ko mjbUt AOr os bnane, tya wMmt ko p/git ke pa pr lane me& mhan p/-av rha hE| yhI vh piv{ lXy AOr wYe+y hE ijs kI p/aiPt ke ilye ;**Slaimk iv+vivtaly**, inmN{^ @v% i=xa .davn v tblIq>- ke ara p/yTn kr rhI hE| ;sI lXy kI p/aiPt me& -ag lete huye, iv+vivtaly ke «**vE}aink Anus&.an s&Sia**» ne bhut sare bamK>sd vE}aink p/ojeK& kI tEyarI tya yojna bnane ka kam AarM- ikya hE|

;sI me& se @k kam ;Slam tya wske guo& ke ivqy me& os Anus&.an tya wska p/sar hE| ;s ka wYe+y yh hE ik ;SlamI smuday AOr smaj ke logo& ko, ;Slam tya wske Ak>Id# AOr k>anUn .AaRat AaSia AOr =aS{a- ke ivqy me& os tya sTy jankarI dI jaye |

«;Slam ke Arkan» ke bare me& yh iktab -I «s&S^a» kI vE}aink yojnaAo& ka @k A&= hE| «s&S^a» ne, iv+viv†aly ke kuṛ A)yapko& se ;s ivqy me& il`ne ke ilye Anuro. ikya| ifr jo kuṛ wNho&ne il`a, «s&S^a» ne wske ApnI «vE}aink kme†I» ko so&p idya| taik vh wska s&=o.n kre, AOr iksI -I p/kar kI kmI ko pUra krke, t^a vE}aink p/s&go& ko k>urAan v hdIs ke p/mao& AOr tkoR& se joṛ> kr, wske wict `p me& inkal ske|

;s iktab A^va Anus&.an ke ^ara, «s&S^a» kI yh lals hE ik ;SlamI iv+v ke log, la-dayk dInI v .aimRk i=xa p/aPt kr ske&| ;sI ilye ws ne ;ska Anuvad duinya kI AnEk -aqaAo& me& krke p/sar ikya hE| AOr wske (Internet)pr wtara hE|

hmarI ALLah tÜala se, sWdI Arb kI srkar ke ilye duÜa hE ik vh, jo ;Slam kI seva, AOr wske p/car v p/sar, t^a wskI rxa krne me&, jo mhan kOi== AOr p/yTn kr rhI hE, ;sI p/kar ;s iv+viv†aly ko ws kI trf> se jo shayta AOr s&rx^ haisl AOr p/aPt hE, ws pr ALLah tÜala ;s srkar ko AC^a AOr pUra pUra pu*y AOr bdla de|

hm yh -I duÜa krte hE& ik ALLah tÜala, ;s iktab ke ^ara la- phu%caye| AOr ãApnI k<pa AOr Anuk&pa seã «s&S^a» ke =Eq vE}aink yojnaAo& ko pUra krne kI tofIk> de!

;sI p/kar hmarI yh -I duÜa hE ik ALLah tÜala hme& wn cIj>o& ke krne kI

tOfIk> de ijnko vh ps%d frmata, AOr ijn se
p/sNn t⁹a `u= hota hE| AOr hme& ihdayt
•A⁹Rat sI·e AOr sTy raSta- kI trf> davt
A⁹va inm&{^ dene vala, t⁹a hk> ka shayk
bnaye!

vE}aink Anus&·an s&S⁹a

**;Slam
ka phla `Kn**

﴿ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﴾

kI gvahI dena |

AᳵaRt ;s bat kI gvahI dena ik
ALLah ke AitirKt ko: sCca mabUd nhI&,
tᳵa muhMmd •sLlLlahu AlEih v sLlm-
ALLah ke rsUl hE&|

yh dono& gvaihya% ;Slam ka p/ve=
ᳵar tᳵa wska sb se mhan `Kn AOr StM-
hE&| iksI VyiKt ke ;Slam SvIkar krne
ka in^Ry wSI smy ikya ja skta hE jb
vh ;Nhe& j>ban se bol kr Ada kre, tᳵa
;nke mutaibk> kayR kre| @Esa krne se
hI @k kaif>r VyiKt, muslman ho skta
hE|

ÓÃ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ kI gvahI dene ka AᳵR^

"la;laha ;LlLlah" kI gvahI dene
ka AᳵR yh hE ik ;s ke AᳵR ko jan kr
;se bola jaye tᳵa j>aihr AOr guPt,
dono& p/kar se ;ske nodn ka paln ikya
jayel yid iksI ne wske ibna AᳵR jane
bola tᳵa wske nodn ka paln nhI& ikya
to •;jma:- s&g•natmk tOr pr wse kuᳵ -
I la- n hoga| biLk vh wske iv'^2 tkR
bn jayega| "la;laha ;LlLlah" ka AᳵR
hE^ vaStivk wpask kevl ALLah tÜala hI
hE|

;s kilma ke do `Kn •StM-- hE^

- "nf>I" •;nkar-
- ";Sbat" •SvIkr^-

yh dono& `Kn, ALLah ke AitirKt
tmam cIjo& kI :+vrTv ko nkarte hE|
AOr ws ko kevl ALLah tÜala ke ilye
saibt krte hE| ijska ko: =rIk AOr
sazI nhI&| ;sI trh yh kilma, tag>Ut
A^Rat •Asur- ka ;nkar krne, ws se <^a
krne t^a ws se bej>arI p/k: krne ko -
I siMmilt hE|

"tag>Ut" hr ws cIj> ko kha jata
hE ijs kI ALLah tÜala ke AitirKt pUja
kI jatI hE| cahe vh ;Nsan ho ya pT^r,
peD> ho A^va kamvasnaye&.....|

ijsne ;s kilma ko pv>a prNtu ws
ne ALLah tÜala ke AitirKt pUje jane
vale zU^e mabUdo& ka ;nkar nhI& ikya
to wsne ;s kilma •vaKy- ka pU^R "p se
paln nhI& ikya| ALLah tÜala ka f>rman
hE^

﴿وَالَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٣]

Anuvad^ «AOr tuMhara mabUd, hk>Ik>t
me& @k hI mabUd hE| wske AitirKt ko:
sTy mabUd nhI&| vh Ait k<palu AOr Ait
dyalu hE|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÓØÕ-
ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٦]

Anuvad ^ «.mR ke ivqy me& ko: dbav nhI&, sTy AsTy se Alg ho cuka hE| ;silye jo VyiKt ALLah tÜala ke AitirKt ANy devo& ko nkar kr kevl ALLah tÜala pr :man laye to smzo ws ne mj>bUt kD>e ko 9am ilya, jo k-I n ;U;ega AOr ALLah tÜala sunne vala, janne vala hE|» •sUr† bk>ra, Aayt^ Ô×Ø-

•الإله- ka A9R hE^ hk> ke sa9 ijskI wpasna AOr ;badt kI jaye| At† ijs ne ;s bat kI AaS9a r`I ik •الإله- s<Q4a, jIivkadata, ya pEda krne pr 9mta r`ne ka nam hE t9a ;sI pr :man lana kaf>I hE, AOr wpasna me& ALLah ko @k manne kI ko: Aav+yKta nhI& to wse duinya ke ANdr :Slam me& p/ve= krne se (لا إله إلا الله) ko: la- nhI& phu%ca skta| AOr n hI Aai`>rt me& sdEv yatna se wse muiKt hI iml skegI| ALLah tÜala ka f>rman hE^

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣١].

Anuvad ^ «Aap kihye ik vh kOn hE jo tum ko Aaka= t9a .rtI se roj>I ro:I phu%cata hE? A9va vh kOn hE jo kano& t9a Aa%`o& pr pU^R Ai.kar r`ta hE? AOr vh kOn hE jo jIv.arI ko injIRv se inkalta hE t9a injIRv se sjIv ko inkalta hE? t9a vh kOn hE jo s-I kayo&R ka s&caln krta hE? Av+y vh yhI khe&ge ik vh ALLah tÜala hI hE| to wnse kihye ik ifr Drte Kyo& nhI&?»
 •sUr† yUnus, Aayt^ ÖÓ-

ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^
 ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ [سورة النمل: ٦٠].

Anuvad ^ «•-la btaAo to- Aaka=o& t9a .rtI ko iks ne pEda ikya? iks ne Aaka= se vqaR kI, ifr ws se hreÑ-re - Vy bag> wgaye? ;n bag>o& ke v<xo& ko tum kdaip nhI& wga skte| to Kya ALLah ke AitirKt ko: ANy -I pUjne yoGy hE? biLk yh lOg •sI.e magR- se dUr hI hote ja rhe hE&|» •sUr† nml, Aayt^ ØÒ-

ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^
 ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَى يُؤْفِكُونَ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٨٧].

Anuvad ^ «AOr yid Aap wn se pUre& ik wNhe& iks ne pEda ikya hE, to Av+y yh w]r de&ge ik^ ALLah ne.....| ifr -I yh

kha% ifr rhe hE&?» •sUr† j>u`>/'f,
Aayt^ ÚÙ-

ÔÃ kilma Ã@Ã tOhId kI =te&R^

ÓÃwske AªR ka •;nkar tªa p/ma[^]
dono& p/kar se- }an r`na, jo A}anta
ke ivprIt hE| AªRat† wske AitirKt kI
jane valI vStuAo& kI wpa[^]na ka ;nkar
krna| tªa wse kevl ALLah tÜala ke
ilye p/mai[^]t krna, ijska ko: saZI
nhI&| ;silye ;ska wske AitirKt ko:
yoGy -I nhI& hE|

ÔÃ yk>In •iv+vas- krna, jo =k ke
ivprIt hE|

AªRat† AadmI, ;ske Ai-p/ay @v&
w²e+y pr iv+vas r`te huye tªa idl se
s&tuQ: ho kr pUre yk>In ke saª wse
bole|

ÔÃ ku>bUl •SvIkar- krna, jo r²
•ASvIkar- ke ivprIt hE|

AªRat^ wn sMpU[^]R vStuAo& ko,
ijnka yh vaKy nodn krta hE Apne idl
AOr j>ban se SvIkar kre, `>bro& kI
puiQ: kre| Aade=o& ka paln kre, roKI
g: cIj>o& se bce, tªa dlIl ko r³ krne
Aªva ws me& pirvtRn krne ke cKkr me&
n pD>e|

ÖÃ ";nik>yad" •A}akarI- krna, jo Tyagne ke ivprIt hE| vh ;s p/kar kI yh vaKy ijn cIj>o& pr dlalt krta hE wska guPt @v& SpQ: "p se A.In ho jaye|

×Ã isd\k> •sTy-, jo zU• ke ivprIt hE|

A᳚Rat ;se sCce idl se khe| A᳚Rat‡ wska idl wskI j>ban ke, AOr wska jaihr wske guPt ke AnukUl hE|

At‡ ijs ne ApnI j>ban se to gvahI dI lEikn idl se wske Ai-p/ay ka ;nkar kr be•a to yh wske ilye ku᳚ -I la-dayk n hoga| biLk vh wn munaif>k>o& kI trh hoga jo ApnI j>bano& se to khte hE&, lEikn wnke idlo& me& yh bate& nhI& hotI|

ØÃ ;~>las •inmRlta-, jo i=kR ke ivprIt hE| yanI bNda nEk inYyt se i=kR kI tmam imlav;•o& se Apne kmR ko inmRl krle| ALLah ka f>rman hE^

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [سورة البينة، الآية: ٥].

Anuvad^ «;Nhe& ;ske AitirKt ko: Aade= nhI& idya gya ik vh kevl ALLah kI ;badt kre&| wsI ke ilye •mR ko, ;b/ahIm @ke+varvadI ke •mR pr =u² kr r`e&|» •sUr‡ biYyn‡, Aayt^ ×-

ŪÃ muhBbt •p/em-, jo ३<λa ke
 ivprIt hE|
 ;s vaKy se muhBbt, t9a yh vaKy ijska
 nodn @v& dlalt krta hE ws se p/em
 krna| wskI =to&R pr kayRirt rhne
 valo& se muhBbt t9a wska iv'2 krne
 valo& se ३<λa krna| ;skI in=anI yh hE
 ik ALLah ke p/em ko svORpr r`e| cahe
 wskI ;C9a wske ivprIt hI Kyo& n kr
 rhI ho| AOr ALLah tAala ijs se ३<λa
 krta hE ws se ३<λa kre cahe wskI ;C9a
 wsI hI kI Kyo& n kr rhI ho| ALLah AOr
 wske rsUl se im{ta r`ne valo& se
 im{ta, t9a ALLah AOr wske rsUl se
 ={uta r`ne valo& se ={uta r`e| ALLah
 tÜala ka f>rman hE^

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ
 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
 تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [سورة الممتحنة، الآية: ٤].

Anuvad^ «•muslmano!- tuMhare ilye
 •AadrΛIRy- ;b/ahIm me& t9a wnke
 sai9yo& me& Ait w]m nmUna hE| jbbik wn
 sb ne Apne smuday se SpQε =Bdo& me&
 kh idya 9a ik hm tum se t9a ijnÃijn
 kI tum ALLah ke AitirKt pUja krte ho
 wn sb se pUΛR"p se ivmu` hE&| hm
 tuMhare •iv+vas ko- ASvIkar krte hE&|

AOr jb tk tum ALLah ke @k hone pr
:man n laAo hm me& AOr tum me& hme=a
ke ilye kp; @v& bEr wTpNn ho gya hE|»

•sUr† muMtihn†, Aayt^ Ö-

ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا
لِلَّهِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٥]

Anuvad^ «tªa kuṛ log @ese -I hE& jo
ANyo& ko, ALLah ke saª sazidar ¢hra
kr wnse @Ese p/em r`te hE& jEsa p/em
ALLah se hona caihye| lEikn :man vale
ALLah tÜala se p/em me& ;^v> hote
hE&|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÓØ×-

ijs ne (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ko in†SvaªRta @v&
yk>In ke saª kha, ʳoªe AOr bD>e i=kR
AOr ibdAto& tªa papo& se bca rha to
wse duinya me& gumrahI se ihdayt nsIb
hOgI| yatna se muiKt imlegI| tªa nkR
ws pr hram ho jayegI|

bNde pr AinvayR hE ik vh ;n
=to&R ko pU^R "p se bja laye, wse
pU^R "p se bja lane ka AªR yh hE ik
bNda me& yh =te&R pa: jaye&| vh ;s kI
pabNdI kre, ;sme& wska yad krna
AinvayR nhI& hE|

yhI mhan vaKy (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) •tOhIde
wliUhYyt- khlata hE| yh tOhId kI
ATyNt mhTv ik>Sm hE| ijs me& nibyo&

AOr wnkI k>Omo& ke bIc mt-ed huAa|
;sI ko saibt krne ke ilye rsUlo& ka
Aagmn huAa| jEsa ik ALLah tÜala ka
f>rman hE^

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ ابْعُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [سورة النحل،

الآية: ٣٦]

Anuvad^ «t9a hm ne p/Tyek smuday me&
rsUl -eje ik •logo!- kevl ALLah kI
wpasna •;badt- kro| t9a raxso& •wske
AitirKt s-I im(ya pUJyo&- se bco|»
•sUr† nh\l, Aayt^ ØØ-

ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [سورة

الأنبياء، الآية: ٢٥].

Anuvad^ «AOr hm ne tum se phle jo
rsUl •s&de= vahk- -I -eja wskI AOr
yhI v-I •:=va^I- Avtirt kI, ik mere
AitirKt ko: sCca pUJy nhI&, ;silye
tum sb merI hI :badt •wpasna- kro|»
•sUr† AiMbya, Aayt^ ØØ-

jb svR9a tOhId ka nam ilya jaye to
;s se yhI murad hota hE|

❁ **tOhId wLUihYyt kI pir-aqa^**

"tOhId wLUihYyt" ;s bat ka ;k>rar
krna hE ik ALLah tÜala hI sMpU^R
s<iQ; pr "wLUihYyt" •yanI sCca mabUd-
AOr "wbUidYyt" •wpasna ka hk>dar- vala

hE| t9a ;badt me& kevl wSI ko @kta
mana jaye, wska ko: saZI nhI&|

➤ ;s tOhId ke nam^

;s tOhId ka nam "tOhId wLUihYyt"
A9va ";laihYyt" ;silye pD>a Kyo&ik yh
kevl ALLah tÜala ke ilye "tÜLLuh" ko
inmRl krne pr in-Rr hE| "tÜLLuh" ka
A9R hE^ bhut ij>yada p/em krna|

;s tOhId ko inMnili`t namo& se -
I bola jata hE|

•k- "tOhIde ;badt" A9va
"wbUidYyt", Kyo&ik yh tOhId kevl ALLah
tÜala ke ilye wpasna ko inmRl krne pr
in-Rr hE|

•`- "tOhIde ;rada", Kyo&ik yh
kmoR& 3ara ALLah kI p/sNnta ko p/aPt
krne ke ;rada pr in-Rr hE|

•g- "tOhIde k>s\d", Kyo&ik yh
ALLah tÜala ke ilye k>s\d •s&kLp- ko
inmRl krne pr in-Rr hE| jo kevl ALLah
ke ilye wpasna ko inmRl krne ko
AinvayR kr deta hE|

•r- "tOhIde tlb", Kyo&ik yh ;s
bat pr in-Rr krtI hE ik jo ma&gna hE
vh kevl ALLah tÜala se hI ma&ga jaye|

•j- "tOhIde Aml", Kyo&ik yh
ALLah tÜala ke ilye kmoR& ko inmRl
krne pr in-Rr krtI hE|

➤ ;ska huKm^

"tOhIde wLUihYyt" bNdo& pr f>jR> hE| ;sI ke ³ara vh ;Slam me& p/ve= ho skte hE&| AOr nrk se -I muiKt wSI smy iml sktI hE, jB vh ;ska AaS^a r`e&, AOr ;ske nodn ka paln kre&| yH vh p/Am vStu hE ijs ka AaS^a r`na t^a ws pr kmR krna "mukLlf" bNda pr AinvayR hE| AOr yHI vh p/Am vStu hE ijs se AmN{^ @v& i=xa ko AarM- ikya jayega| hala%ik ku^ log ;ske wl^a -I AaS^a r`te hE&|

;skI AinvayRta •f>j>R hone- pr jo cIj> dlalt krtI hE vh yH hE ik iktab AOr suNnt me& yHI huKm Aaya hE| ALLah ne s<iQ% ko ;sI ilye pEda ikya hE| AOr iktabo& ko ;sI ilye Avtirt f>rmaya hE| ALLah tÜala ka f>rman hE^ ﴿ قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٌ} [سورة الرعد، الآية: ٣٦]

Anuvad^ «Aap roq^a kr dIijye ik muze to kevl yHI Aade= idya gya hE ik mE& ALLah kI ;badt k"% , t^a wske sa^ iksI ko sazIdar n bnaW%| mE& wSI kI Aor Aam&i{t kr rha hU%| t^a wSI kI Aor mera AakiqRt hona hE|» •sUr† rÜd, Aayt^ ØØ-

ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذريات، الآية: ٥٦].

Anuvad ^ «mE& ne ijNnat @v& mnuQyo& ko ma{ ;sI ilye pEda ikya hE ik ve kevl merI ;badt kre&|» •sUr† j>airyat, Aayt^ ×Ø-

(وقال النبي ﷺ لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم.....) (رواه البخاري ومسلم)

Anuvad ^ •nbI •sLlLlahu AlEih v sLlm- ne muAaj> •rij>yLlahu ANhu- se f>rmaya^ tum @EsI k>Om ke pas ja rhe ho jo "Ahle iktab" •:sa:- hE&| ;silye phlI cIj> ijskI trf> tum wnko AamN{^ doge vh ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ kI gvahI dena hE| Agr vh ;s ko man le& to wNhe& btaAo ik ALlah ne wn pr p/Tyek idn AOr rat me& pa%c smy kI nmaj> f>j>R kI hE| Agr vh ;se -I man le& to wNhe& btaAo ik ALlah ne wn pr sd\k>a •.mRdan- AinvayR ikya hE, jo .nI logo& se lekr f>k>Iro& me& ba&ε idya jayega| - •bu`>arI @v& muiSlm-

yh tOhId sb se AF>j>l •svor[eQo- kmR AOr papo& ka sb se mhan "kF>f>ara" •pap)n- hE| bu`>arI AOr muiSlm ne

hJ>rt wTban ﷻ kI @k hdIs ka v^Rn ikya
hE ik nbI ﷻ ne f>rmaya^

(فإنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لِإِلَهِ إِلَّا اللهُ يَتَغَى بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)

Anuvad^ •jo log "la;laha ;LlLlah" kh
kr ALLah kI p/sNnta cahte hE&, ALLah
ne wn pr nrk ko hram kr idya hE|-

•٦>- kilma@tOhId pr rsUlo& ka
;i]f>ak> AOr s&yog^

tмам rsUlo& ka, ApnI k>Om ko
"la;laha ;LlLlah" ke vaKy kI trf>
AamN{^ dene t^a ;s se Av}a krne kI
sUrt me& wnko Drane pr s&yog hE| jEsa
ik k>urAan ne ;se bhut sI Aayto& me&
byan ikya hE| ALLah tÜala ka f>rman
hE^

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [سورة
الأنبياء، الآية: ٢٥].

Anuvad^ «AOr hm ne tum se phle jo
rsUl •s&de=vahk- -I -eja wskI AOr yhI
v^I •;=va^I- Avtirt •naij>l- kI ik
mere AitirKt ko: sCca pUJy nhI&|
;silye tum sb merI hI ;badt •wpasna-
kro|» •sUr† AiMbya, Aayt^ Ôx-

rsUl •sLlLlahu AlEih v sLlm- ne
nibyO& ke ;skI trf> AamN{^ dene me&
s&gi•t hone ka wdahr^ idya hE| nbI
•sLlLlahu AlEih v sLlm- ka f>rman hE

ik tmam nbI "ALlatI" -a: hE&| A᳚Rat᳚
wnkI mata@e& Alg Alg hE&, AOr .mR @k
hE| ;silye tmam nibyo& ka Asl dIn @k
hE, jo "kilmaĀ@ĀtOhId" hE| y᳚ip wnkI
=rIyto& ke k>anUn AOr inym Alg Alg
rhe hE&| jEse bCce hote hE&| At᳚ wnkI
mata@e k-I Alg Alg hotI hE& lEikn
ipta @k hota hE|

**•ō- "muhMmd •𐎎- ALLah ke rsUl hE&"
kI gvahI dene ka A᳚R^**

•k- "muhMmd •sLlLllahu AlEih v
sLlm- ALLah ke rsUl hE&" kI gvahI
dene ka A᳚R yh hE ik Aapke Aade= ka
paln ikya jaye, Aap kI bta: hu: `bro&
kI tsdIk> kI jaye| Aapki roki hu:
cIj>o& se `ka jaye| t᳚a jo trIk>a Aap
ne btaya hE kevl wsi ke ʒara ALLah kI
wpasna kI jaye|

•`-muhMmd •sLlLllahu AlEih v
sLlm- ALLah ke rsUl hE& kI gvahI dene
kI hk>Ik>t AOr ANveq^

;ska ANveq^ yh hE ik d<v>iv+vas
@v& :man ke sa᳚ ;s bat kI gvahI de&
ik muhMmd •sLlLllahu AlEih v sLlm-
ALLah ke bNde AOr rsUl hE&| ALLah ne
Aap ko sMpU᳚R ;/Nsano& AOr ijNno& kI
trf> -eja hE| Aap AiNtm nbI AOr rsUl

hE&| Aap ALLah ke ink\™ bNde hE&|
 "wlUihYyt" •mabUd hona- kI iv=eqtaAo&
 me& se ko: -I iv=eqta Aap ke ANdr
 nhI& hE| ;sI p/kar Aap kI Anu=&sa
 krna, Aapki Aa}a AOr vjRn kI p/itQ•a
 krna, t9a k9n, kmR AOr AaS9a ke Anusar
 Aapki suNnt ko AinvayRt† pkD>e rhna|
 ALLah tÜala ka f>rman hE^

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٥٨]،

Anuvad^ «Aap kh diijye ik @e logo!
 mE& tum s-I kI Aor ALLah ka -eja huAa
 rsUl h%U|» •sUr† Aaraf>, Aayt^ Ó×Ú-
 ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سورة سبأ، الآية: ٢٨]،

Anuvad^ «AOr hm ne Aap ko s-I logo&
 ke ilye =u-sUcnaye& sunane vala t9a
 stkR krne vala bna kr -eja hE|»
 •sUr† sba, Aayt^ ÔÚ-
 ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [سورة
 الأحزاب، الآية: ٤٠]،

Anuvad^ «•logo!- muhMmd •sLlLlahu
 ALeih v sLlm- tuMhare pu'qo& me& se
 iksI ke ipta nhI&| Aap to kevl ALLah
 tÜala ke rsUl hE&| AOr smSt nibyo&
 me& AiNtm hE&|» •sUr† Ah\j>ab, Aayt^
 ÖÖ-

ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [سورة الإسراء: من الآية ٩٣]

Anuvad ^ «Aap w]r de& ik mera rb
•palnhar- piv{ hE! mE& to @k manv
pu'q h%U| jo rsUl •s&de=vahk- bnaya
gya hU%|» •sur† ;s/a, Aayt^ ŪÕ-

yh hk>Ik>t Aava ANveqA ivi-Nn
vStuAo& pr siMmilt Aava =aiml hE^

➤phlI cIj>^ AapkI irsalt ka
;k>rar krna AOr idl me& guPt tOr se
;ska AaSava r`na|

➤dUsrI cIj>^ ;se bolna AOr j>ban
se p/kε krke ;sko SvIkar krna|

➤tIsrI cIj>^ Aap jo hk> lekr
Aaye hE&, wskI kmR 3ara Anu=&sa krna|
AOr ijs im(yakmR se Aap ne roka hE,
wse Tyag dena| ALLah tÜala ka f>rman
hE^

{فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}
[سورة الأعراف: من الآية ١٥٨].

Anuvad ^ «;silye ALLah ke p/it tava
wske Ai-} dUt ke p/it iv+vas kro| jo
ik ALLah pr tava wske Axro& •Aade=o&-
pr :man r`te hE&| tava wnka AnusrA kro
taik tum sTy magR pr Aa jaAo|» •sUr†
Aaraf>, Aayt^ ÓxÚ-

➤cOvI cIj>^ AapkI bta: hu:
p/Tyek `>br kI puiQε krna|

➤Paa%cvI cIj>^ Jaan, mal, s&tan,
ipta, AOr tmam logo& kI muhBbt se

Aapki muhbBt ko Ai.k r`na| ;silye ik
Aap ALLah ke rsUl hE&| AOr Aapki
muhbBt vaStv me& ALLah ki muhbBt AOr
ALLah ke raSte me& muhbBt hE|

vStut† muhbBt yh hE ik Aapki
Aa}aAo& ka paln krke Aapki Anu=&sa ki
jaye, Aapki roki hu: cIjo&> ko Tyag
idya jaye| Aapki shayta ki jaye AOr
Aap se im{ta r`I jaye| ALLah tÜala ka
f>rman hE^

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [سورة آل

عمران: من الآية ٣١]

Anuvad^ «Aap kh dIijye! yid tum
ALLah tÜala se p/em krte ho to mera
Anusr^ kro| ALLah tÜala tum se p/em
krega| AOr tuMhare pap xma kr dega|»
•sUr† AaleÃ;mran, Aayt^ ÖÓ-

nbI •sLllLahu ALeih v sLlm- ka
f>rman hE^

(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) (متفق عليه من
حديث أنس)

Anuvad^ «tum me& se ko: ws smy tk
sCca muimn nhI& ho skta jb tk ik mE&
wske smIp wske iptā, wski s&tān AOr
tmām logo& se ip/y n ho jaW%|»
•bu`>arI t̄a muiSlm me& yh Ans ki
hdIs hE|-

ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
 [سورة الأعراف: من الآية ١٥٧]

Anuvad ^ «;silye jo log ws nbI pr
 :man late hE& t9a wska sm9Rn krte
 hE&, @v& wnkI shayta krte hE&, t9a ws
 p/ka= ka Anukr^ krte hE&, jo wn ke
 sa9 -eja gya hE, @Ese log pU^R sflta
 p/aPt krne vale hE&|» •sUr† Aaraf,
 Aayt^ Ó×Û-

➤25I cIj>^ yh AaS9a r`na kI
 AapKI suNnt •rIit @v& ini0- ;SlamI
 =aS{ ka wd\gmn hE| yh k>urAan pak kI
 trh hE| ;ska ivro0 bui² se nhI& ikya
 ja skta|

➤satvI& cIj>^ Aap kI suNnt •inym
 @v& rIit- ka paln krna| Aap kI bat ko
 p/Tyek kI bat pr [eQ5 r`na, wse
 SvIkar krna, Aap kI =rIÛt ko in8RayI
 bnana, AOr ws se p/sNn rhna| Allah
 tÜala ka f>rman hE^

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
 مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سورة النساء، الآية: ٦٥]

Anuvad ^ «to sOgN. hE tere rb kI! vh
 log ws smy tk :man vale nhI& ho skte,
 jb tk ik vh s-I Aaps ke mt-ed valI
 cIj>o& me& Aap ko Nyaiyk SvIkar n kr

le&| ifr jo in^Ry Aap kr de& ws se
Apne idlo& me& tink -I kluqta t^a
Ap/sNnta n paye&| AOr Aa}akarI ke -
a&tI SvIkar kr le&|»•sUr†
insa,Aayt^Ø×-

**ÖÃ dono& =hadto& kI f>jIlt AOr
[eQ^ta^**

"kilmaÃ@eÃtOhId" kI bhut b^>I f>jIlt
AOr [eQ^ta hE| ;s pr k>urAan AOr hdIs
se bhut p/ma^ AOr dlIl AayI hE&| ;n
me& se ku^ inMnili`t hE&^

kÃ yh ;Slam ka p/^m StM- hE| AOr
yhI dIn kI Asl, AOr imLlt kI nI&v AOr
buinyad hE| yh vh p/^m vStu hE ijske
^ara bNda ;Slam me& p/ve= krta hE|
AOr ;sI ke kar^ Aaka= t^a .rtI iS^r
hE&|

`Ã ;ske ANveq^ se Allah kI
tOhId, AOr nbI •sLlLlahu AlEih v
sLlm- kI =rIÜt ko in^RayI bnana,
dono& @ki{t ho jate hE&|

gÃ yh `>Un AOr mal kI surxa ka
@k kar^ hE| At† ijs ne ;se pv> ilya
ws ka `>Un AOr mal surixt ho gya|

۳آ ﴿ لا إله إلا الله ﴾ khna svR۹a sb se [eQ۰
 kmR hE| AOr gunaho&& ka sb se b۶>a
 pap)n hE| p/ly ke idn yh traj>U ke
 vj>nI hone ka kar۸ bnega| yh SvgR me&
 p/ve= pane t۹a nrk se muiKt pane ka -
 I kar۸ hoga| yid sato& Aasman t۹a
 sato& j>mIn @k pl۶>e me& r` dI jaye&
 AOr ﴿ لا إله إلا الله ﴾ ko dUsre pl۶>e me& r`
 idya jaye to ﴿ لا إله إلا الله ﴾ ka pl۶>a zuk
 jayega A۹Rat -arI ho jayega|

;mam muiSlm ne hjrt wbada •ﷻ- se
 irvayt ikya hE ik nbI •sLlllahu AlEih
 v sLlm- ne f>rmaya^

(من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، حرم الله عليه النار)

Anuvad^ •ijs ne yh gvahI dI ik ALLah
 tÜala ke Alava ko: sTy mabUd nhI&,
 t۹a muhMmd •sLlllahu AlEih v sLlm-
 wske bNde AOr rsUl hE&, to ALLah
 tÜala ws pr nrk ko hram kr dega|-

۶>آ ;sme& "Smr۸ @v& icNtn" ivntI
 t۹a p/=&sa @ki{t ho g: hE&| AOr ;badt
 kI duAa t۹a p/+n kI duAa dono& pr
 Aa.airt hE&| yh sb se Ai.k paya jane
 vala AOr sb se Ai.k srl ijk/ hE| At#
 yhI piv{ vaKy AOr =iKt=alI k۶>a t۹a
 inmRlta vala vaKy hE| ;sI se Aaka=

AOr .rtI iSᳵr hE&| ;sI ke karᳵ s<iQᳵ
ko pEda ikya gya, rsUl -eje gye, tᳵa
puStke& Avtirt kI gyI&| ;sI kI pUitR
ke ilye suNnt @v& f>jR =aS{Iy ikye
gye| ;sI ke karᳵ ijhad ke ilye
tlvare& inkalI gyI&| ijs ne ;se sCce
h/dy AOr ;~>las •inᳵSvaᳵRta- se kha,
ws ke AnukUl kmR ikya, wse SvIkar
ikya, tᳵa ws se p/em ikya, to ALLah
tÜala wse ws ke kmR ke Anusar SvgR
me& dai`>l kr dega|



;Slam ka dUsra `Kn

nma j > p v > na

wpasnaAo& •;badto&- me& nma j > kI
sb se b v > I =an hE| AOr vh p/ma^ AOr
dlI l me& sb se Ai.k SpQ; hE| ;Slam ne
;ska bhut tTva.an AOr ws pr ATyNt
)yan keNid/t ikya hE| AOr tmam
wpasnaAo&& ke bIc ;skI f > j > Ilt AOr
mtRbe ko p/k; ikya hE| yh ALLah tÜala
AOr wske bNde ke bIc @k sMpkR hE, jo
bNda kI Apne rb ke Aade=o& kI
bjaAavrI ko p/k; krta hE|

•Ó- nmaj> kI pir-aqa^

nmaj> ka =aiBdk A^R hE^ duÜa AOr
p/a^Rna krna| ;sI se ALLah tÜala ka
yh f>rman hE^

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [سورة التوبة: من الآية ١٠٣]

Anuvad^ «AOr wnke ilye p/a^Rna
kIijye! in†s&deh AapkI p/a^Rna wnke
ilye =a&tI AOr s&toq ka sa.n hE|»
•sUr† tOba, Aayt^ ÓÒÕ-

nmaj> ka =aS{Iy A^R^ yh @EsI
;badt hE jo iv=eq bato& @v& kmoR& pr
Aa.airt hE| jo "tkbIr" se AarM- hotI
heE AOr slam pr `>Tm hotI hE|

"bato&" se taTp/y^ tkbIr, tSbIh,
duAa Aaid hE&| AOr "kmoR&" se murad^
ik>yam, `kUA, sJda AOr julUs A^Rat
bE.k Aaid hE&|

•Ô- nibyo& AOr rsUlo& ke nj>dIk
nmaj> ka mhTv^

nmaj> wn ;badto& me& se hE jo
hmare nbI ﷻ ke -eje jane se pUvR ke
tmam AsmanI .mo&R me& m+"A •=aS{Iy- kI
g: ^I| yh dei`ye ;b/ahIm •AlEihSslam-
Apne ilye AOr ApnI pIv>I ke logo& ke
ilye Apne rb se ;ske k>aym krne ke
ilye iks p/kar p/+nkarI hE^

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [سورة إبراهيم: من الآية ٤٠].

Anuvad^ «@e mere rb! muze nmaj> ka
pabNd r`, t9a merI sNtan ko -I|»
•sUr† ;b/ahIm, Aayt^ ÖÖ-

AOr ;Sma:l •AlEihSslam- Apne 3r
valo& ko -I ;ska Aade= dete 9e^

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ [سورة مريم: من الآية ٥٥].

Anuvad^ «t9a vh Apne pirvar valo& ko
inrNtr nmaj> t9a j>kat •mRdan- ka
Aade= dete 9e|» •sUr† mr\ym, Aayt^
xx-

Allah tÜala ne mUsa •AlEihSslam-
ko 3oiqt krte hu@ f>rmaya^

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [سورة طه، الآية: ١٤].

Anuvad^ «in†s&deh mE& hI ALlah hU%|
mere AitirKt ANY ko:, ;badt •pUja- ke
yoGy nhI&| ;silye tU merI hI ;badt
kr, t9a merI yad ke ilye nmaj> kI
S9apna kr|» •sUr† taha, Aayt^ ÓÖ-

Allah tÜala ne Apne nbI :sa
•AlEihSslam- ko ;n =Bdo& me& visYyt
kI 9I^

﴿وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [سورة مريم,
الآية: ٣١].

Anuvad^ «t9a ws ne muze =u-† bnaya
hE, jha% -I mE& rhU%, t9a wsne muze

nmaj> AOr j>kat ka Aade= idya hE, jb tk -I mE& jIivt rhU%|» •sUr† mr\ym, Aayt^ ÖÓ-

ALLah tÜala ne nmaj> ko hmare nbI muhMmd •sLlLlLlahu AlEih v sLlm- pr ";s/a" AOr "meAraj" vali rat ko Aasman me& f>j>R ikya 9a| AarM- me& xÒ nmaj> f>j>R kI 9I&| ifr wNhe& 39a kr pa%c tk kr idya gya| yh nmaj> to pa%c hI Ada kI jatI hE&, lEikn svab •puNn- me& pcas nmajo& ke sman hE| pa%c nmaje&^ f>j/, j>uh\r, As/, miG>rb AOr ;=a hE&| ;s pr muslmano& ka ;i]f>ak> AOr s&g•n hE|

•Ö- nmaj> kI m=":yt •=aS{Iy- kI dlII^

nmaj> ke =aS{Iy hone kI bhut sarI dlII Aa: hE&, ;nme& se ku2 inMnili` t hE&^

ÓÃ k>urAan se dlII^

➤ ALLah tÜala ka f>rman hE^

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [سورة البقرة: من الآية ٤٣].

Anuvad^ «AOr nmaj> S9aipt kro @v& j>kat do|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÖÖ-

➤ ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [سورة النساء: من الآية ١٠٣].

Anuvad ^ «in†s&deh, nmaj> muslimano& pr
 ini+ct tªa in·Rairt smy pr AinvayR kI
 gyI hE|» •sUr† inSa, Aayt^ ÓÒÕ-

➤ ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^
 ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾
 [سورة البينة: من الآية ٥].

Anuvad ^ «wNhe& ;ske AitirKt ko:
 Aade= nhI& idya gya ik vh kevl ALLah
 kI ;badt kre&| AOr ;b/ahIm
 @eke+vrvadI ke .mR ke Anusar wsI ke
 ilye .mR ko =u² kr r`e&| AOr nmaj> ko
 Sªaibt kre&| tªa j>kat dete rhe&|»
 •sUr† biYyna, Aayt^ ×-

ÔÃ hdIs •suNnt- se dlI1^

(١) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله ﷺ قال: (بني الإسلام
 على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
 وحج البيت، وصوم رمضان.) (متفق عليه)

Anuvad ^ •;Bne wmr •rij>yLlahu
 ANhuma- kI hdIs hE ik ALLah ke rsUl
 •sLlLlahu AlEih v sLlm- ne f>rmaya^
 ;Slam pa%c cIj>o& pr k>aym hE^

➤ ;s bat kI gvahI dena ik ALLah
 ke AitirKt ko: hk>Ik>I mabUd nhI&,
 tªa muhMmd •sLlLlahu AlEih v sLlm-
 ALLah ke rsUl hE&|

➤ nmaj> k>aym krna,

- j>kat inkalna,
- kaba =rIf> ka hJj krna,
- AOr rmj>an ke mhIne ke roj>e r`na|-

•bu`>arI t9a muiSIm-

(۲) حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، و فيه: أن رسول الله ﷺ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا.... (رواه مسلم)

Anuvad^ •wmr ibn `>]ab •rijyLlahu ANhu- kI hdIs hE ik ALLah ke rsUl •sLlLlahu AlEih v sLlm- ne f>rmaya^ ;Slam yh hE ik Aap yh gvahI de& ik ALLah ke AitirKt ko: hk>Ik>I mabUd nhI& hE, AOr muhMmd •sLlLlahu AlEih v sLlm- ALLah ke rsUl hE&| AOr nmaj> k>aym kre&, j>kat de&, rmj>an ke roj>e r`e&, t9a kaba =rIf> ka hJj kre&, Agr vha% tk phu%cne kI xmta pa: jatI ho to|-

(۳) حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن، فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة...) (متفق عليه)

Anuvad^ •;Bne ABbas •rij>yLlahu ANhu- kI hdIs hE ik nbI •sLlLlahu AlEih v sLlm- ne hjrt muAaj> •rij>yLlahu ANhu- ko ymn de= kI trf> -eja AOr f>rmaya^ logo& ko ;s

bat kI gvahI kI trf> bulana ik ALLah
ke AitirKt ko: hk>Ik>I mabUd nhI&|
AOOr muhMmd •sLlLlahu AlEih v sLlm-
ALLah ke rsUl hE&| Agr vh ;skI
A}apaln kr le& to wNhe& bta;ye ik
ALLah tÜala ne wn pr p/Tyek idn AOOr
rat me& pa%c nmaje& f>jR> kI hE&|-
•bu`>arI tªa muiSlm-

**ÖÃ ";jmaA", •AªRat‡ muiSlm iv³ano&
ka iksI dInI bat pr s&giot hona-**

muslmano& ka pa%c smy kI nmaj>
kI "m+";Yyt" •=aS{Iy- tªa wske ;Slam
ke f>j>oR& me& se @k f>j>R hone pr
";jmaA" hE|

**ÖÃ nmaj> kI "m+";Yyt" •=aS{Iy- kI
ihk\mt^**

nmaj> kI kur ihKmtE& AOOr -ed hE&
ijnke karª ;se m+"A •=aS{Iy- ikya gya
hE| ;nme& se kur kI trf> s&ket AOOr
;=ara hm inMnili`t p&iKtyo& me& kr
rhe hE&^

ÖÃ mnuQy, ALLah ka das AOOr ws ka
g>ulam hE| ;s nmaj> ke ³ara ;nsan
dasta ka @hsas krta hE| AOOr sdEv Apne
palnhar ke saª juD>a rhta hE|

ÔÃ nmaj>, nmaj>I ko ALLah se
mj>bUt s&bN. vala tªa wsko ALLah
tAala ka sdEv kItRn karI bna detI hE|

ÔÃ nmaj>, nmaj>I se inlRJjta @v&
burI cIj>o& ko `>Tm kr detI hE| AOr
yh nmaj> bNde ke ilye wske papo& AOr
g>lityo& se piv{ta ka @k sbb AOr kar^
hE|

;skI dlIl hjrt jaibr ibn
ABduLLah ﷺ kI hdIs hE, vh khte hE& ik
ALLah ke rsUl •sLlLlahu AlEih v sLlm-
ne f>rmaya^

(مثل الصلوات كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس

مرّات) (رواه مسلم)

Anuvad^ •nmaj> ka wdahr^ @Ese hE
jEse iksI ke ʳr ke samne se nhr bh
rhI ho ijs me& vh p/Tyek idn pa%c bar
Snan krta ho|- •muiSlm =rIf>-

ÔÃ nmaj>, h/dy ke ilye sNtoq,
p/a^ ke ilye raht, tªa wn pre=ainyo&
se muiKtkarI hE jo ws ke wjlapn ko
gdla kr detI hE&| ;sIilye nmaj> nbI
•sLlLlahu AlEih v sLlm- kI Aa%`o& kI
o&^k 9I| jb ko: mui+kl pE= AatI to Aap
•sLlLlahu AlEih v sLlm- ;sI kI Aor
do^>te 9e| AOr f>rmate 9e^

(يا بلال! أرحنا بالصلاة) (أخرجه أحمد)

Anuvad ^ •@e iblal! hme& nmaj> ³ara
Aaram phu%caAo|- •muSnd Ahmd-

×Ã nmaj> ikn logo& pr f>j>R
•AinvayR- hE?

nmaj>, p/Tyek AK>lm&d •bui²man-,
bailg> •Vysk-, muslman, mdR tªa AOrt
pr vaijb hE| nmaj>, kaif>r pr vaijb
nhI hE| AªaRt duinya me& ws ko ;s kI
AdaygI ke ilye nhI& kha jayega|
Kyo&ik ws ke kuf>/ pr hote hu@e ;s kI
AdaygI •Ik nhI& ho sktI| lEikn
Aai`>rt me& ws ko nmaj> n pv>ne ka
d*ᵛ imlega| Kyo&ik vh ;Slam k>ubUl
krke ws ko Ada kr skta ªa, prNtu ws ne
@Esa nhI& ikya| ;ska p/maᵛ ALLah
tÜala ka yh f>rman hE^

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمِسْكِينِ. وَكُنَّا
نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [سورة المدثر،

[الآيات: ٤٢-٤٧]

Anuvad ^ «•nrk valo& se kha jayega-
tum ko nrk me& iks cIj> ne ªal idya?
vh w|r de&ge^ ik hm nmaj>I nhI& ªe| n
-U`o& ko `ana i`late ªe| tªa hm
vadÃivvad •;nkar- krne valo& ke saª
VySt rhte ªe| AOr hm K>yamt ke idn ko

zu•late 9e| yha% tk ik hmarI m<Tyu Aa
gyI|» •sUr‡ mu¥iSsr, Aayt^ ÖÔÃÖÜ-
nmaj>, bCco& pr vaijb nhI& hE|
Kyo&ik vh "mukLlf>" •A9Rat ijs pr
;Slam ke kanUn lagU hote hE&- nhI&
hE| ;sI p/kar pagl AOr •M.C.-valI AOrt
@v& vh AOrt ijsko nya i==u pEda huAa
ho, ws pr -I vaijb nhI& hE| Kyo&ik
=rIyt ne wn ke ilye nmaj> ko xma kr
idya hE| ;ska kar^ yh hE ik wn ke sa9
@EsI २9na २9I hE ijs ke sa9 nmaj>
pv>na vijRt hE|

२09e bCce, cahe vh l9>ka ho A9va
l9>kI, ke matañipta A9va wske Ai--avk
•vI AOr srprSt- pr vaijb hE ik vh
Apne bCco& ko sat sal ke ho jane pr
nmaj> ka Aade= de&|jbik ds vqR ke
hone pr yid Av+yKta pD> jaye to mare
-I, jEsa ik hdIs =rIf> me& Aaya
hE.....| @Esa ;s ilye ikya gya hE taik
vh nmaj> kI AdayGI ka AadI @v& lalsI
ho jaye|

ØÃ nmaj> २0D>ne vale ka huKm^

ijs ne nmaj> ko २0D> idya vh
kaif>r ho gya| AOr vh muiSlm smuday
se inkl gya, t9a Ab wska =umar ;Slam
se ifr jane valo& me& hoga| ;silye ik
wsne ALLah kI @k f>j>R kI hu: cIj> ko

Tyag kr wskI **Av=a** kI hE| ;silye ws se tOba krne ko kha jayega| Agr vh tOba kr leta hE AOr nmaj> k>aym krne lgta hE to •Ik hE, vrna vh ;Slam se inkl jayega| mrne ke bad wsko Snan dena, wska kf>nana, wskI nmaj>e jnaj>a pv>na, AOr wsko muslmano& ke k>b/Stan me& df>n krna jayj> nhI& hE| ;silye ik vh Ab muslmano& me& se nhI& rha|

ÙÃ nmaj> kI =te&R^

nmaj> ke shIh hone kI inMnili`t =teR& hE&^

ÓÃ ;Slam|

ÔÃ AK>l •bui²-|

ÕÃ "tmYyuj>" •ivvek-|

ÖÃ smy ka ho jana|

×Ã "inYyt" •nIit- krna|

ØÃ ik>Bla ka ``> krna|

ÙÃ =mRgah ko iřpana| Aadmi kI pdeR valI jGah nai- se ruina tk hE| mgr mihlaAo& ke ilye nmaj> me& dono& haeilyo& AOr cehre ko roD> kr AOr pUra =rIr pdaR hE|

ÚÃ nmaj>I ke kpD>e, ws ka bdn, t9a jha% vh nmaj> pv> rha hE wn sb ka piv{ hona|

ÛÃ "hdq" •napakI- ko dUr krna,
A᳚Rat᳚ vujU> krna, AOr yid s&-og ikya
ho to Snan krna|

ÛÃ nmaj> pV>ne ke smy^

ÓÃ j>uh\r kI nmaj> ka smy^

;s ka smy sUrj ke vlne sep/arM-
hokr ws smy tk rhta hE jb tk p/Tyek
vStu kI ᳚a&v wsI ke sman ho jaye|
•sUrj ke vlne ka A᳚R hE ik yh m)y
Aasman see miG>rb kI trf> zukna AarM-
kr de|-

ÔÃ As/ kI nmaj> ka smy^

;ska smy j>uh\r ka smy `>Tm hone
se =u" ho kr ws smy tk rhta hE jb tk
p/Tyek vStu kI ᳚a&v wske dOguna ho
jaye| ;s smy sUrj pIla pD>na =u" ho
jata hE|

ÕÃ miG>rb kI nmaj> ka smy^

;ska smy sUyRaSt hone se =u" ho
kr ws smy tk rhta hE jb tk lal "=f>k>"
g>ayb n ho jaye| •lal =f>k> ws lalI
ka nam hE jo sUyRaSt hone ke bad p/k᳚
hotI hE|

ÖÃ ;=a kI nmaj> ka smy^

;ska smy miG>rb kI nmaj> ka smy
>Tm hone se Aa.I rat tk rhta hE|

×Ã f>j/ kI nmaj> ka smy^

;ska smy dUstrI "f>j/" ke p/kε
hone se lekr sUyoRdy tk rhta hE| ;skI
dlIl ABduLlah ibn wmr kI hdIs hE ik
ALlah ke rsUl •sLlLlahu AlEih v sLlm-
ne f>rmaya^

(وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر،
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع
الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة... الحديث) (رواه مسلم)

Anuvad^ «ju>h\r kI nmaj> ka smy sUyR
ke vlne se =u" ho kr ws smy tk rhta
hE jb AadmI ka saya wske brabr ho
jaye| jb tk ik As/ ka smy n ho jaye|
AOOr As/ ka smy ws vK>t tk rhta hE jb
tk ik sUrj me& pIlapn n Aa jaye| AOOr
miG>rb ka smy ws vK>t tk rhta hE jb
tk ik =f>k> g>ayb n ho jaye| AOOr ;=a
ka vK>t Aa.I rat tk rhta hE| jb ik
sub\h kI nmaj> ka smy^ "f>j/" •A9aRt
vh ro=nI jo Aj>an se kuṛ phle Aaka=
me& p/kε hotI hE- ke inklne se lekr
ws vK>t tk rhta hE, jb tk ik sUrj wdy
n ho jaye| jb sUrj wdy ho jaye to
nmaj> se `k jana caihye|.....» •muislm-

ŪÃ nmaj> kI rkAto& kI s&~ya^

tmam f>jR> nmaj>o& kI rkAto& kI
s&~ya ÓÛ hE| jo ;s p/kar hE&^

ÓÃ ju>h\r^ car rkAt,

ÔÃ As/^ car rkAt,

ÕÃ miG>rb^ tIn rkAt,

ÖÃ ;=a^ car rkAt,

×Ã f>j/^ dO rkAt,

ijs ne ;n nmaj>o& kI rkAto& kI
s&~ya me& bv>otrI ya kmI kr dI, to
Agr @Esa wsne jan bUz kr ikya hE to
wskI nmaj> VyªR AªRat `>rab ho
jayegI| AOr Agr g>ltI se ho gya hE to
;skI pUitR "**sJda sh\v**" •AªRat vh sJda
jo nmaj> me& -Ul ke smy ikya jata
hE- se kr lega|

ya{I kI nmaj> me& kuª ANtr hE|
ya{I kI nmaj> yh hE ik vh car rkAto&
valI nmaj> ko km krke Ô rkAt pv>ega|
muslmano& pr AinvayR hE ik jb tk ko:
"=rIyt" kI trf> se yacna AOr wj/>
•.aimRk kar^- n Aa jaye, jEse nI&d
AOr -Ul cUk Aaid tb tk vh ;n nmaj>o&
ko ;nke sIimt smy hI me& pv>e| yid
ko: iksI nmaj> se so jaye ya -Ul jaye
to jb wse yad Aa jaye to ws ko wsI
smy pv> le|

ÓÒÃ nmaj> ke f>j>R^

nmaj> ke f>j>R inMnili`t hE&^
 ÓÃ `D>e hokr pv>na| •Agr `D>a
 hone kI xmta ho to.....|-
 ÔÃ "tkbIre th\rIma", •yanI nmaj>
 me& dai`>l hote smy jo phlI tkbIr khI
 jatI hE|- khna|
 ÔÃ sUr† faitha pv>na|
 ÔÃ `kUA krna|
 ×Ã `kUA se w•na|
 ØÃ sat A&go pr sJda krna|
 ÛÃ sJda se w•kr bE•na|
 ÚÃ Aai`>rI t=Hhud krna|
 ÛÃ t=Hhud ke ilye bE•na|
 ÓÒÃ ;n `Kno& ko Ada krne me&
 s&toq AOr sukUn se kam lena|
 ÓÓÃ ;n `kno& ko k/manusar krna|
 ÓÔÃ AOr slam fErna|

ÓÓÃ nmaj> me& vaijb cIj>e&^

nmaj> kI vaijb cIj>e& Aa• hE&^
 ÓÃ "tkbIre th\rIma" ke ;lava AOr
 dUsrI tkbIre& khna|
 ÔÃ (سمع الله لمن حمده) khna| yh duAa ;mam
 AOr Akele nmaj> pv>ne vale dono& pr
 vaijb hE| lEikn muK>tdI •jo ;mam ke
 pIve nmaj> pv> rha ho- ;sko nhI&
 pv>ega|

ÕÃ (ربنا ولك الحمد) khna| yh khna tmam
logo& pr vaijb hE| cahe vh ;mam ho,
Aava ;mam ke pIre ho, Aava AkEla
nmaj> pv> rha ho|

ÕÃ `kUA me& (سبحان ربي العظيم) khna|

×Ã sJda me&(سبحان ربي الأعلى) khna|

ØÃ dono& sJdo& ke bIc (ربّ اغفر لي)
khna|

ÛÃ phla t=Hhud krna| ijs me& yh
duÛa pv>I jatI hE^

(التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله)

Anuvad^ •sMpUAR vNdna @v& d"d t9a s-I
piv{aye& ALLah tÜala ke ilye iv=eq
hE&| @e nbI! Aap pr p/Am, AOr slamtI
t9a ALLah kI rh\mt AOr wskI brkte&
ho&| hm pr, t9a ALLah ke sJjn bNdo&
pr slamtI ho| mE& gvahI deta hU% ik
ALLah ke AitirKt ko: wpasna yoGy
nhI&| AOr ;s bat kI -I gvahI deta hU%
ik muhMmd •sLlLlLahu AlEih v sLlm-
wske bNde AOr rsUl hE&|-

;ske AitirKt dUsrI "m+"A"

•=aSi{y- duAaye& -I pv> skta hE|

ÛÃ phle t=Hhud me& bE•na|

ijsne jan bUz kr ;n me& se iksI
vaijb cIj> ko ʁoD> idya to wskI nmaj>
VyʁR ho jayegI| AOr ijs ne A}an ke
tOr pr ya -Ul kr ʁoD> idya to vh "sJda
sh\v" kregal

ÓÔÃ jmaAt kI nmaj>^

muslmano& pr j>"rI hE ik vh
pa%co& vK>t kI nmaj> miSjd me& jmaAt
ke saʁ Ada kre&| taik ALLah kI
p/sNnta p/aPt ho AOr wskI trf> se
ACʁa Svab AOr bdla imle|

jmaAt kI nmaj> tNha: kI nmaj> se
ÔÛ guna Af\>j>l hE| hjrt ;Bne wmr
•rij>yLlahu ANhu- kI hdIs me& hE ik
ALLah ke rsUl •sLlLlahu AlEih v sLlm-
ne f>rmaya^

(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ سبع وعشرين درجة) (متفق عليه)

Anuvad^ «jmaAt kI nmaj> tNha: kI
nmaj> se s]a:s guna Af\>j>l hE|»
•bu`>arI tʁa muiSlm-

muslman AOrt kI nmaj>, miSjd me&
jakr pv>ne ke muk>aible me& ʁr me&
pv>na ij>yada AF>j>l AOr [eQ° hE|

**ÓÔÃ nmaj> ko VyʁR kr dene valI
vStu@e&|**

nmaj> inMnili`t vStuAo& me& se
iksI -I @k vStu ko krne se VyªR ho
jatI hE|

ÔÃ jan bUz kr `aÃpI lena|

iv³an ;s bat pr s&giot hE& ik ijs
ne nmaj> me& jan bUz kr `aÃpI ilya to
wskI nmaj> ;U; jatI hE| ;silye ws pr
nmaj> dohrana vaijb hoga|

ÔÃ jan bUz kr @EsI bat krna jo
nmaj> ke iht me& n ho| ;s kI dlIl
hjrt j>Ed ibn Ark>m valI hdIs hE vh
f>rmate hE&^

(كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يَكَلِّمُ الرَّجُلَ مَنْ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ،
حَتَّى نَزَلَتْ (وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [سورة البقرة الآية: ٢٣٨] فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ
الْكَلَامِ) (رواه البخاري ومسلم)

Anuvad^ «hm nmaj> me& bate& ikya
krte 9e| AadmI Apne bg>l vale AadmI
se bate& kr ilya krta 9a| jb yh Aayt
﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ Avtirt hu: to hme& `>amo=
rhne ka Aade= de idya gya| AOr
guF>tgU •vatRalap- se rok idya gya|
•bu`>arI t9a muiSIm-

;sI p/kar ;s bat pr -I s&g•n hE
ik jo nmaj> me& jan bUz kr bol de AOr
wska w¥e+y nmaj> kI su•ar n ho to
wskI nmaj> f>aisd •ivk<t- ho jayegI|
AªRat ;U; jayegI|

ÕÃ jan bUz kr "Amle kqIr" •ko:
Ai.k kam ya hrkt- krna| "Amle kqIr" ka
inym yh hE ik nmaj> pv>ne vale kI
trf> de`ne vala yh ~>yal kre ik vh
nmaj> nhI& pv> rha hE|

ÕÃ ibna iksI yacna ke jan bUz kr
iksI `Kn Aava =tR ko ۲۰۱> dena| jEse
bg>er piv{ta ke nmaj> pv>na, Aava
nmaj> me& ik>bla ka ``> n krna Aaid|
;skI dlIl bu`>arI v muiSIm kI hdIs hE
ik nbI ۲۰۱ ne ws dehatI se ijs ne •Ik
se nmaj> nhI& pv>I ۱I, f>rmaya^

(ارجع فصل فيّانك لم تصل)

Anuvad^ •vaips jaAo AOr nmaj> pv>o,
Kyo&ik tum ne nmaj> nhI& pv>I|-

xÃ nmaj> me& h&sna|

;s bat pr iv³ano& ka s&g•n hE ik
h&sne se nmaj> ۳U۳ jatI hE|

**ÓÖÃ vh smy ijn me& nmaj> pv>na
inqe• hE^**

ÓÃ f>j/> kI nmaj> ke bad, yha%
tk ik sUrj ku۲ Wpr cv> jaye|

ÔÃ jB sUrj ibLkul Aaka= ke bIc
me& ho|

ÕÃ As/ kI nmaj> se lekr sUyRaSt
hone tk|

;n vK>to& me& nmaj> ke "mk" h"
 •Aip/y- hone kI dlIl hjrt wk>ba ibn
 Aaimr kI hdIs hE, vh frmate hE&^
 (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن
 نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى
 تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب) (رواه مسلم)

Anuvad^ «tIn vK>to& me& rsUl
 •sLlLlahu AlEih v sLlm- hme& nmaj>
 pv>ne AOr mudo&R ko df>n krne se
 rokte 9el jb sUrj inkl kr ro=n ho
 jaye yha% tk ik W%ca: me& cla jaye,
 jb `D>I dophr ho yha% tk ik sUrj vl
 jaye| jb sUrj DUBne lge yha% tk ik
 pUra DUB jaye|» •muislm-
 AOr hjrt AbU s:d •rij>yLlahu
 ANhu- kI hdIs hE ik nbI •sLlLlahu
 AlEih v sLlm- ne f>rmaya^

(لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر
 حتى تطلع الشمس) (متفق عليه)

Anuvad^ •As/ kI nmaj> ke bad ko:
 nmaj> nhI&, yha% tk ik sUrj DUB jaye|
 AOr f>j>/ kI nmaj> ke bad ko: nmaj>
 nhI&, yha% tk ik sUrj pUre tOr se
 inkl Aaye|- •bu`>arI t9a muislm-

ÓxÃ nmaj> kI AdayGI kI s&ixPt ivi.^

muslmano& pr ALLah ke rsUl
 •sLlLlahu AlEih v sLlm- kI Anu=&sa
 AinvayR AOr j"rI hE| ;sI me& se nmaj>
 ka trIk>a -I hE| Aap •sLlLlahu AlEih
 v sLlm- ka f>rman hE^

[صلوا كما رأيتموني أصلي] (رواه البخاري)

Anuvad^ •tum wsI p/kar nmaj> pv>o ijs
 p/kar muze nmaj> pv>te huye de`te
 ho|- •bu`>arI-

nbI •sLlLlahu AlEih v sLlm- jb
 nmaj> me& ALLah ke samne `D>e hote to
 h/dy se nmaj> kI inYyt Aava nIit
 krte| Aap se yh khI& nhI& Aaya hE ik
 Aap ﷺ ne nIit ke =Bd ApnI ju>ban
 se -I bole ho&| Aap
 (الله أكبر) •ALLahu Akbr- khte hu@e tkbIr
 khte| ;sI tkbIr ke sa@ Aap ﷺ Apne
 dono& ha@o& ko Apne dono& kN.o& ke
 brabr tk le jate| AOr k-I k-ar ;Nhe&
 wa kr dono& kano& kI lo tk le jate
 AOr daye& ha@ ko baye& ha@ pr sIne ke
 Wpr r` lete| AOr ";iStF>tah" •vh duAa
 ijs se nmaj> AarM- hotI hE- kI
 duAaAo& me& se iksI @k duAa se nmaj>
 AarM- krte| ;NhI& me& se @k yh duAa
 hE^

(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)

ifr sUr† faitha AOr ;ske sa᳚ ko:
 ANy sUrt pv>te| ifr "ALlahu Akbr" kh
 kr Apne dono& ha᳚o& ko Wpr wate AOr
 `kUA krte| Aap ApnI pI᳚ ko `kUA me&
 ;s trh brabr kr lete ik Agr ws pr
 panI ka Pyala r` idya jata to vh -I
 nhI& igr skta ᳚a| Aap `kUA me& tIn
 bar (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك
 سبحان ربي العظيم) khte| ifr
 (khte hu᳚e Apne sr ko wate, AOr
 Apne dono& ha᳚o& ko -I wate, yanI
"rf>e yden" krte| yha% tk ik sI.e
 `᳚>e ho jate| ifr (الله أكبر) khte hu᳚e sJda
 me& cle jate| sJde kI halt me& Aap
 Apne dono& ha᳚o& AOr phluAo& ke bIc
 ;tnI dUrI r`te ik Aap kI bg>l kI jgh
 p/k᳚ ho jatI| AOr ApnI pe=anI, nak,
 dono& h᳚eilyo&, dono& ᳚u᳚no&, AOr
 dono& pEro& ke iknaro& ko ;s p/kar kr
 lete ik .rtI se iml jatI&| AOr ;sI
 trh sJda me& -I Aap tIn bar (سبحان ربي
 (pv>te| ifr (الله أكبر) khte AOr daihne
 pEr ke pNje `᳚>a kr lete AOr baye&
 per ke pNje ko ib᳚a kr ws pr be᳚
 jate| AOr pEro& kI w%gilyo& ko mo᳚>kr

ik>bla kI Aor kr lete| ifr yh duĀa
pv>te^

(ربّ اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني)

Anuvad^ •@e mere ALLah! muze b~>=
de, mere Wpr rhm f>rma, mere ANdr jo
kmI hE& wn ko pUra f>rma, muze p/gtI
tĀa wNntI se nvaj>, muze sI.e magR pr
r`, muze hr pre=anI se bca, AOr muze
roj>I de!-

ifr (الله أكبر) kh kr sJde me& cle
jate| AOr ifr dUsrI rkAt ke ilye `Ā>e
ho jate| AOr p/Tyek rkAt me& yhI sb
krte| jb do rkAt ke bad "**t=Hhud**" ke
ilye be•te to yh duĀa pv>te^

(التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله)

Anuvad^ •sMpUAR vNdna @v& d"d tĀa s-
I piv{taye& ALLah tĀala ke ilye iv=eq
hE&| @e nbI! Aap pr p/Āam AOr slamtI
tĀa ALLah kI rhmt AOr wskI brkte&
ho&| hmare Wpr tĀa ALLah ke sJjn
bNdo& pr -I slamtI ho| mE& gvahI deta
hU% ik ALLah ke AitirKt ko: sCca
wpasna yoGy nhI&| AOr ;s bat kI -I
gvahI deta hU% ik muhMmd •sLlllahu
AlEih v sLlm- wske bNde AOr rsUl
hE&|-

ifr tkbIr kh kr Apne dono& ha⁹
 w•ate huye •yanI rf>e yden krte huye-
 sI.e `>e ho jate| yh nmaj> me& co⁹I
 jgh hE jha% Aap Apne ha⁹o& ko w•ate,
 yanI **"rf>e yden"** krte| jB Aap Aai`>rI
 t=Hhud ke ilye be•te to baye& surIn
 pr be•te| •yh t=Hhud niG>rb kI nmaj>
 me& tIsrI rkAt, AOr juHr, As/, t⁹a
 ;=a kI nmaj> me& co⁹I rkAt me& hota
 hE|

Aap ﷺ Apne baye& pEr ke pNje ko
 ApnI daihnI ip&vLI ke nIce se inkal
 kr, AOr daihne pEr ke pNja ko ik>bla
 kI trf> krke w•a lete, ApnI h⁹ElI kI
 w%gilyo& ko ba&• lete, AOr kevl =hadT
 kI w%gLI ko ;=ara A⁹va hrkt krne ke
 ilye ۲o۶> dete, AOr wskI Aor ingah
 i;kaye huye yh duŪa p^v>te^

(التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده
 ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
 إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
 وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد)

jB t=Hhud se f>airg> ho jate to
 dayI& AOr bayI& trf> yh khkr slam fer
 dete^

(السلام عليكم ورحمة الله — السلام عليكم ورحمة الله)

yha% tk ik Aap ke gal mubark
p/k; ho jate| ;s ivi. ko hm ne rsUl
•sLlLlLahu AlEih v sLlm- kI ivi-Nn
hdIso& se byan ikya hE|

yh nmaj> kI cNd cIj>e& hE&, ijs
pr Aamal •kmR- kI ACra: in-Rr hE| yid
nmaj> ko •Ik p/kar se Ada ikya gya to
k>yamt ke idn =eq sare Aamal •Ik
inkle&ge, AOr yid nmaj> me& hI
g>b>I hu: to sare hI Aamal VyR ho
jaye&ge| nmaj> hI vh cIj> hE ijs ke
bare me& K>yamt ke idn sb se phle
ihsab ilya jayega| ijs ne ;s ko pUre
trIk>e se Ada ikya hoga to vh sfl ho
jayega, AOr ijs ne ;s me& kotahI kI
hogI vh ivnQ; ho jayega| nmaj>, papo&
AOr gunaho&& se roktI hE| At# nmaj>,
;Nsan kI AaTma me& paye jane vale
bure Sv-av t'a burI r>o& kI dva hE|
;sI nmaj> ke 'ara vh wn sb burI
cIj>o& se pak ho sktI hE|



**;Slam
ka tIsra `Kn**

j>kat dena

ÓÃ j>kat kI pir-aqa^

kÃ =aiBdk A9R^ "j>kat" ka =aiBdk
A9R brkt, bv>otrI, p/=&sa, piv{ta AOr
>Er t9a -la: ke hE&|

j>kat me& inkale jane vale mal
ko "j>kat" ;silye khte hE& Kyo&ik ;s

me& brkt ³ara mal me& bv>otrI hotI hE|
AOr miG>if>rt ³ara AadmI kI pakI hotI
hE|

ˆÃ j>kat ka =aS{Iy A¹Rˆ j>kat
ws iv=eq mal ko khte hE& ijska iv=eq
smy me& iv=eq logo& kI trf> se
inkalna vaijb hota hE|

ÔÃ j>kat ka mhTv AOr wskI ihk\mtˆ

j>kat ;Slam ke pa%c Arkan •StM--
me& se @k `Kn hE| ALlah kI puStk
•k>urAan =rIf>- me& Ai.ktr jgho& me&
;s ka v¹Rn nmaj> ke sa¹ Aaya hE|
;NhI& me& se ALlah tÜala ka yh f>rman
hEˆ

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [سورة البقرة: من الآية ٤٣]

Anuvadˆ «AOr nmaj> S¹aipt kro @v&
j>kat dol •sUr† bk>ra, Aaytˆ ÖÖ-
;sI p/kar ALlah tÜala ka yh
f>rmanˆ

﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ [سورة البينة: من الآية ٥]

Anuvadˆ «AOr nmaj> ko S¹aipt r`e&
t¹a j>kat dete rhe&|» •sUr† biYyna,
Aaytˆ x-

AOr nbI •sLllllahu AlEih v sLlm-
ka f>rman hEˆ (بني الإسلام على خمس) yanI ;Slam
•mR kI nIv& pa%c cIj>o& pr hE| ;NhI&
me& (إيتاء الزكاة) •A¹Rat j>kat inkalne ka

vArN Aaya hE|- •bu`>arI t9a muiSlm
me& ;Bne wmr kI hdIs ka yh @k {ukD>a
hE-

ALlah tÜala ne j>kat ko, b`>IlI
AOOr lalc se ;NsanI jano& kI piv{ta,
fk>Iro&, gdagro& AOOr muh\tajo& ke
ilye smanta, mal kI pakI AOOr bv>otrI
t9a brkt hone, AOOr Aaf>to& se surxa,
AOOr wn sa.ar^ wÿe+yo& ke ik>yam, ijn
pr muiSlm smuday kI jIvn @v& sO-aGy
in-Rr hE, kI `>aitr =aS{Iy ikya hE|

ALlah tÜala ne j>kat lene kI
ihkmt ka vArN ApnI iktab k>urAan
=rIf> me& kuʀ ;s p/kar ikya hE^

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [سورة التوبة: من الآية ١٠٣]

Anuvad^ «Aap wnke mal me& se j>kat
lIijye, ijske 3ara Aap wnko =u^ @v&
piv{ kr de&|» •sUr† tOba, Aayt^ ÓÓÖ-

ÕÃ j>kat ka huKm^

j>kat p/Tyek ws muslman pr
AinvayR @v& f>j>R hE, jo =toR& 3ara
insab ka mailk ho jaye, yha% tk ik
bCce AOOr pagl Vyikt kI trf> se -I
j>kat wnke vLI inkale&ge|

ijs ne jan bUz kr, }an r`te hu@e
;skI AinvayRta ka ;nkar ikya, to @Esa
Vyikt kaif>r hE| AOOr ijsne b`>IlI AOOr
AalSy ke kar^ ;nkar ikya A9va j>kat

ko roke r`a, to vh duracarI t`a mhan
 papo& •kbIra gunah- me& se @k mhan
 pap ka Ai-yogI hE| AOr Agr wska
 dehaNt ;sI AvS`a me& ho gya, to wska
 pir^am ALLah ke dEveC`a pr hogal
 ;silye ik ALLah tÜala ka f>rman hE^

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [سورة النساء: من

[الآية ٤٨]

Anuvad^ «in†s&deh, ALLah tÜala Apne
 sa^ im[^ •i=kR- ikye jane ko xma nhI&
 krta, AOr ;ske AitirKt ijse cahe xma
 kr de|» •sUr† insa, Aayt^ ÖÜ-

@Ese VyikT se j>kat lI jayegI
 AOr hram kmR ke Ai-yogI hone ke kar^
 wse d*D -I idya jayegal ALLah tÜala
 ne j>kat n dene vale ko ;s p/kar
 f`kara AOr •mkI dI hE^

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ
 يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكَوَىٰ بَهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ

لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [سورة التوبة، من الآية: ٣٤ والآية ٣٥]

Anuvad^ «jo log sone ca&dI ka koq
 r`te hE&, t`a ALLah ke magR me& Vyy
 nhI& krte wNhe& du`d yatna ka smacar
 suna do| ijs idn koq ko nrk kI AiGn
 me& tpaya jayega, ifr ws se wnke
 ma^e, pa=Rv t`a pI• dag>I jayegI.....|
 •wn se kha jayega- yh hE ijse tum ne
 Apne ilye koq bna kr r`a `a| At† tum

Apne koq ka Svad c`o|» •sUr† tOba,
Aayt^ ÖÖÃÖ×-

AOr nbI •sLlLlahu AlEih v sLlm-
ne f>rmaya^

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما من صاحب كثر لا
يؤدّي زكاته إلا أحمي عليه نار جهنّم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه، وجبينه، حتى
يحكم الله بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة
وإما إلى النار...) (الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم)

Anuvad^ •hjrt Abu hurEra •ﷺ- se
irvayt hE ik jnab nbI •sLlLlahu AlEih
v sLlm- ne f>rmaya ik jo -I maldar
Vyikt Apne mal kI j>kat Ada nhI&
krta, K>yamt ke idn ws pr jhNnm kI
Aag ->ka: jayegI, AOr ws ke mal ko
iprla kr loehe kI ple; kI trh bna
idya jayega| AOr ws ke 3ara ws ke
dono& phlU AOr pE=anI dag>e jaye&ge|
AOr yh kmR ws smy tk jarI rhega jb tk
ik ALlah tÜala Apne bNdo& ke m)y
in^Ry AOr f>Esla n kr de| ws idn ijs
kI Avi· pcas hj>ar sal kI hogI| ifr
wse jNnt Aava jhNnm kI Aor clta kr
idya jayega|- •bu`>arIÄmuislm-

ÖÃ j>kat kI AinvayRta kI =teR&^

j>kat ke vaijb hone kI pa%
=teR& hE&^

ÓÃ ;Slam, •yanI muslman hona-
At# kaif>r pr j>kat AinvayR nhI& hE|

ÔÃ Aaj>adI, At# Ai.ktr iv³ano&
ke smIp g>ulam ke mal me& j>kat
AinvayR nhI& hE| ;sI p/kar ws g>ulam
pr -I j>kat nhI& hE jo Apne mailk se
smzOta kr le| ;silye ik jb tk ws pr
@k pEsa -I bak>I rhta hE, vh g>ulam
hI rhta hE|

ÕÃ insab ka mailk hona| ;silye
Agr mal, insab se km hE to wsme&
j>kat vaijb nhI& hE|

ÖÃ mal ka pU^R "p se mailk hona|
At# il`e hu@e muk>rRr ç^ me& j>kat
nhI& hE, AOr n hI tk>sIm se pUvR
ihSsedar ke ihSsa me& jo la- p/aPt
huAa hE, ws me& j>kat hE| AOr n hI
@Ese ç^ me& hE ijska p/aPt krna ki^n
ho| jb tk ik ws ko Apne kN^ol A^va
iny&{^ me& n kr le| AOr n hI wn
malo& me& j>kat vaijb hE jo -la:
t^a nekI ke raSte me& ApR^ •yanI
vK>f>- kr idyee gye ho&| jEse
mujaihdIn ke ilye, miSjdo& ke ilye
AOr imskIno& ke ilye..... Aaid|

×Ã @k vqR guj>r jana^ At# @Ese
mal me& j>kat nhI& hE ijs pr @k vqR n
bIta ho|

lEikn j>mIn se inklne vale
g>Llo& tªa flo& me& j>kat wske kaïne
AOr toD>ne ke smy hI dena hogI|
;silye ik ALlah tÜala ka f>rman hE^

﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [سورة الأنعام: من الآية ١٤١]

Anuvad^ «AOr kªa: vale idn hI fl AOr
g>Lle ka hk> •yanI j>kat- de do»
•sUr† AnAam, Aayt^ ÓÖÓ-

`inj pdaªR AOr -UmI se inklne vale
`>j>ane ka huKm, -Uim se inklne valI
vStu ke huKm me& dai`>l hoga| ;silye
ik yh @Esa mal hE jo j>mIn se p/aPt
huAa hE|

p=uAo& kI pEdavar AOr Vyapar ka
la- wske Asl ke vqR bitne ke Anusar
hoga| AOr wse Apne pas mOjUd mal me&
=aiml ikya jayega, ifr Agr mal insab
tk phu%c jata hE to wskI j>kat
inkalna vaijb hogI|

j>kat inkalne ke ilye bulUg>t
•VySk- AOr bui² kI =tR nhI& hE| Ai.ktr
iv³ano& ke smIp bCca AOr pag>l ke mal
me& -I j>kat AinvayR hE|

xÃ j>kat vale mal^

j>kat pa%c ik>Sm ke malo& me&
AinvayR hE^

➤phlI ik>Sm^ sone AOr ca&dI^

;sI p/kar vh p/cilt kag>j> vale
no: jo wnkI jgh pr clte hE&| ;s me&

j>kat kI ma{a Ó/ÖÒ hE| jo •%Ô.×- bnta hE| ;s me& j>kat ws smy AinvayR hogI jB pUra @k vqR bIt jaye AOr mal insab ko phu%c jaye|

sone ke insab kI ma{a ÔÒ "imQk>al" hE| @k "imQk>al" ka vj>n •Ö.Ô×- g/am hota hE| ;s p/kar sone ka insab •Ú×- g/am hoga|

ca&dI ke insab kI ma{a ÔÒÒ "idrhM" hE, @k idrhM ka vj>n •Ô.ÛÙ×- g/am ke brabr hota hE| ;s p/kar ca&dI ka insab •×Û×- g/am hoga|

smkalIn nk>dI no'ò& ke insab kI ma{a yH hE ik wSkI k>Imt sal bIt jane AOr j>kat inkalte smy •Ú×- g/am sona A⁹va •×Û×- g/am ca&dI kI k>Imt ke brabr ho jaye| ;silye sone AOr ca&dI ke insab kI ma{a kI insbt no'ò& ka insab wske `rIdÃvÃïbk/I ke vElU •**Value**-ke Anusar ivi-Nn hota hE|

jB vH ;tne nk>dI isKko& ka mailk ho jaye ijs se sone ya ca&dI ke pUvR ke dono& ma{aAo& me& se iksI @k ma{a, ya ws se Ai•k, ko `>rId ske to wsme& j>kat vaijB hogI| ;sme& isKko& ke ivi-Nn namo&, jEse iryal, dInar, fr&k, Dalr, A⁹va `pye Aaid kI trf>nhI& de`a jayega| ;sI p/kar yH -I nhI& de`a jayega ik vH kag>j>I no' hE& A⁹va isKke hE&|

yh ini+ct bat hE ik p{mud/a kI
 k>Imte& bdlTI rhtI h&E, ;silye j>kat
 inkalne vale pr AinvayR hE ik vh wskI
 ws k>Imt ko de`e jo wskI, j>kat vaijb
 hone ke smy 9I A9Rat# j b ws pr @k sal
 guj>ra 9a|

insab se ijtnI k>Imt •sona
 ca&dI- bV> jaye ws se wsI ke Anusar
 j>kat inkalI jayegI| ;skI dlI, AlI ﷺ
 kI hdIs hE vh khte hE&, ALLah ke rsUl
 •sLlLlLahu AlEih v sLlm- ne f>rmaya^

(إذا كانت لك مائة درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك
 شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد
 فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكوةٌ حتى يحول عليها الحول) (رواه أبو داود، وهو

حديث حسن)

Anuvad^ •jb tuMhare pas dO sO •ÔÒ-
 idrhm ho& AOr @k vqR bIt jaye to
 wnme& pa%c idrhm j>kat hogI| AOr jb
 tuMhare pas bIs •ÔÒ- dInar ho jaye&,
 AOr wn pr @k vqR bIt jaye to wnme&
 Aa.a •1/2- dInar j>kat hogI| Agr ;s se
 ij>yada ho jaye to wsI ke ihsab se
 j>kat inkalI jayegI| AOr iksI -I mal
 me& ws smy tk j>kat nhI& hE jb tk ws
 pr @k vqR n bIt jaye|- •;se Abu daWd
 ne irvayt ikya hE, AOr yh hdIs hsn
 hE-

j>evr •Aa-Uq^ yid jma pU&jI AOr
 ikraya ke ilye ho to ibna iksI iv-ed
 ke ;s me& j>kat AinvayR hE| lEikn Agr

p/yog ke ilye ho to iv³ano& kI [eQ^o
 bat yhI hE ik ;s me& -I j>kat AinvayR
 hE| ;s ilye ik sone AOr ca&dI me&
 j>kat ke AinvayR hone ke bare me& jo
 dlIle& Aa: hE&, vh Aam AOr sa.ar^
 hE&^

(ولما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه
 أنّ امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مِسْكَنان غليظتان من ذهب، فقال
 لها: أتعطين زكوة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين
 من نار؟ فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله)

Anuvad^ • Abu daWd, ns: AOr i{imj>I
 ne Am/ ibn =uAEb se irvayt ikya hE,
 Am/ Apne iptā =uAEb se irvayt krte
 hE&, AOr =uAEb Am/ ke dada se irvayt
 krte hE& ik @k AOrt nbI صلى الله عليه وسلم ke pas Aa:
 vh Apne sa^ ApnI bCci ko ilye hu@e ^I
 ijske ha^ me& sone ke do mo:e k&gn ^e|
 Aap صلى الله عليه وسلم ne ws se kha^ Kya tum ;s kI
 j>kat detI ho? ws ne kha nhI&| Aap ne
 f>rmaya^ Kya tuMhe& ;s bat se p/sNnta
 hogI ik ALLah tÜala ;skI vjh se
 tuMhe& k>yamt ke idn Aag ke do k&gn
 phnaye? ;tna sunna ^a ik wsne wn
 dono& ko inkal kr nbI صلى الله عليه وسلم ke samne ^al
 idya| AOr kha^ yh ALLah AOr wske rsUl
 ke ilye hE&|»

(ولما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتحات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت:

صنعتهنّ لأتزيّن لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكّاتهنّ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من التّار)

Anuvad ^ •Abu daWd Aaid ne Aay=a
•rij>yLlahu Anha- se irvayt ikya hE,
vh f>rmatI hE& ik^ ALLah ke rsUl ﷺ
mere pas t=rIf> laye AOr mere ha⁹ me&
ca&dI kI kuṛ ibna ngIne valI A&gU•I
de`I, to Aap ne f>rmaya^ Aay=a! yh
Kya hE? mE& ne kha, @e ALLah ke rsUl
mE& ne ;Nh&e ;silye bnvaya hE, taik
Aap ke ilye sj s&vr skU%| Aap ﷺ ne
f>rmaya^ Kya tum ;nkI j>kat inkaltI
ho? mE& ne kha^ nhI&, A⁹va jo ALLah
cahe| ;s pr Aap ne f>rmaya^ yh nrk ke
ilye kaf>I hE&|-

`inj pda⁹R AOr sone ke AitirKt
hIre AOr motI Aaid se bne j>evr me&
iksI -I iv³an ke smIp j>kat nhI& hE|
lEikn Agr yh Vyapar ke ilye ho to
itjart A⁹Rat Vyapar ke mal me& jo
j>kat hotI hE wsI ke ihsab se ;skI -I
j>kat inkalI jayegI|

➤ **dUsrI ik>Sm** ^ janvro& me& j>kat^
A⁹Rat^ W%⁹, gay, AOr bkrI Aaid
me& j>kat ws smy hogI jb yh p=u ho&|
A⁹Rat bahr crte ho&, A⁹va sal me& ya
sal me& Ai.ktr bahr crte ho&| Kyo&ik

Ai·ka&= ke ilye pUra huKm de idya
 jata hE| ;ska p/ma^ yh hdIs hE ik^
 «hr crne vale W/ε me& j>kat hE|» ;sI
 p/kar Aap kI yh hdIs ik wn bkiryo&
 me& j>kat hE jo crtI ho&, AOr insab
 tk phu%c jaye&, t^a @k sal guj>r
 jaye|

nIce idye gye caεR •**Chart**- me& ;s
 kI pU^R "p se Vya~ya hE^

p=u kI ik>Sm	insab kI ma{a		j>kat kI Vaaijb ma{a
① W/ε kI j>kat ka ihsab^ ↳ ↳ ↳ ↳	se	tk	
	x	û	@k bkrI
	óò	óö	dO bkrI
	óx	óû	tIn bkrI
	ôò	ôö	car bkrI
	ôx	ôx	ibNte m`>aj> •W/εnI ka @k vqR ka bCca-
	õø	öx	ibNte lbUn •W/εnI ka dO vqR ka bCca-
	øø	øò	ihK>k>a •tIn vqR ka bCca-
	øó	ûx	jj>Ûa •car vqR ka bCca-
	ùø	ûò	dO ibNte lbUn
ûó	óòò	dO ihK>k>a	
	jb óôò se Ai.k ho jaye&^	to p/Tyek ôò me& @k "ibNte lbUn" AOr p/Tyek xò me& @k ihk>k>a •yh	

			Ai.ktr wlma kI ray hE -
2 Gaay kI j>kat ka ihsab^ ☞	ÕÒ	ÕÛ	tbIÛa •@k vqR ka bCca-
	ÖÒ	×Û	muisNna •dO vqR ka bCca-
	ØÒ	ØÛ	dO tbIÛa
	ÛÒ	ÛÛ	@k tbIÛa AOr @k muisNna
	jb ÛÛ se Ai.k ho jaye&^		to p/Tyek ÕÒ me& @k tbIÛa, AOr p/Tyek ÖÒ me& @k muisNna
3 bkrI kI j>kat ka ihsab^ ☞	ÖÒ	ÓÒÒ	@k bkrI
	ÓÒÓ	ÔÒÒ	dO bkrI
	ÔÒÓ	ÕÒÒ	tIn bkrI
	jb ÔÒÒ se Ai.k ho jaye&^		to p/Tyek ÓÒÒ me& @k bkrI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بهارسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها: من الغنم، من كل خمس: شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين

إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

وفي صدقة الغنم؛ في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها: ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة: شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها (رواه البخاري)

Anuvad • ALLah dyavan k' ^amyI ke nam se p/arM- krta hU%|

yh j>kat kI ma{a hE| ijse ALLah ke rsUl ne muslmano& pr AinvayR ikya hE| AOr ijska ALLah tÜala ne Apne sNdeQ;a ko Aade= idya hE| At# ijs iksI muslman se ;ske Anusar ma&ga jaye to vh j>kat de, AOr jo ws se Ai.k ma&ge to n de| jb •ÖÖ- W/% ya ws se km ho& to bkrI inkalna hogI, pa%c W/% me& @k bkrI inkale&ge| jb •Öx- W/% phu%c jaye& to •Öx- tk @k "ibNte m`>aj>" •A9Rat W/%nI ka @k vqR ka bCca- j>kat hE| jb •ÖØ- ho jaye& to •Öx- tk @k "ibNte lbUn" •A9Rat W/%nI ka do vqR ka bCca- hE| jb •ÖØ- ho

jaye& to •ØÒ- tk @k "ihK>k>a" •W%:nI
 ka tIn vqR ka bCca- hE| jb •ØÓ- ho
 jaye& to •Û×- tk @k "ijj>Aa" •W%:nI ka
 car vqR ka bCca- hE| jb •ÛØ- se •ÛÒ-
 tk phu%c jaye&e to dO "ibNte lbUn"
 •W%:nI ke do vqR ke dO bCce- hE&| jb
 •ÛÓ- se •ÓÔÒ- tk phu%c jaye& to ;sme&
 dO "ihK>ka" •W%:nI ke tIn vqR ke dO
 bCce- hE&| jb •ÓÔÒ- se ij>yada ho
 jaye& to hr callIs me& @k "ibNte lbUn"
 AOr hr pcas me& @k "ihK>ka" hE| AOr
 ijs ke pas kevl car W%: ho& to wnme&
 j>kat nhI& hE| lEikn Agr mailk `ud se
 dena cahe to de skta hE| jb pa%c W%:
 ho& to ;nme& @k bkrI hE| AOr bkrI kI
 j>kat yh hE ik jb vh @Ese p=u ho& jo
 bahr crte ho& to wskI j>kat yh hE ik
 jb •ÖÒ- se •ÓÔÒ- tk ho& to @k bkrI
 hE| jb •ÓÔÒ- se bv> kr •ÔÒÒ- tk phu%c
 jaye& to dO bkrI hE&| jb dO sO se bv>
 kr tIn sO tk ho jaye& to wsme& tIn
 bkrI hE&| jb tIn sO se Ai.k ho jaye&
 to p/Tyek sO me& @k bkrI hE| Agr iksI
 AadmI ke p=u callIs bkrI me& se @k -I
 km ho to wsme& sdk>a •j>kat- nhI& hE|
 lEikn Agr wska mailk dena cahe to ko:
 bat nhI&...|- •;se bu`>arI ne irvayt
 ikya hE muAaj> ibn jbl ﷺ kI hdIs se-

(إنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ

تَبِيعَةً، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَسْنَةً) (رواه أحمد وأصحاب السنن)

Anuvad ^ •nbI ﷺ ne hjrt muAaj ko ymn
-eja, AOr Aade= idya ik •ÖÖ- gay me&
se @k "tbIA" •@k vqR ka bCca-Aava
"tbIAa" •@k vqR ka mada bCca- le&| AOr
calIs me& se @k "muisNna" •do vqR ka
bCca- le&| •;se Ahmd tva sunn ke
le`ko& ne irvayt ikya hE|-

p=u kI pEdavar kI j>kat ka ihsab
yh hE ik mailk ke pas wska jo Asl hE,
yid vh insab ko phu%c rhe hE& to
pEdavar ko -I wsme& =aiml kr idya
jayega| AOr Agr Asl p=u, insab ko
kevl ;sI pEdavar AaRat bCco& ko imla
kr phu%cta ho to insab ke phu%cne ke
smy se sal ka @tbar hoga|

AOr Agr janvro& ko Vyapar ke
ilye r`a hE to ijs trh itjart ke
saman me& j>kat inkalta hE, ;sI trh
;s me& -I inkalega| AOr Agr p/yog
Aava for ke ilye hE, to wsme& j>kat
nhI& hE| Kyo&ik Abu hurEra ﷺ kI hdIs
hE ik nbI ﷺ ne f>rmaya^

(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) (أخرجه البخاري ومسلم)

Anuvad ^ •iksI -I muslaman ke g>ulam
tva roD>e me& sdk>a •j>kat- nhI& hE|-
•;se bu`>arI tva muiSIm ne irvayt
ikya hE|-

➤ **tIsrI ik>Sm^** `etI AOr flo& me&
j>kat^

Ai.ktr iv³ano& ke smIp jb vh
insab ko phu%c jaye& to wnme& j>kat
inkalna AinvayR hE| yh insab wnke
nj>dIk> pa%c "vsk>" hE| •vsk> ka A9R
Aage Aa rha hE|- ;silye ik nbI ﷺ ka
f>rman hE^

(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (متفق عليه)

Anuvad^ •pa%c "vsk>" se km me&
"sdk>a" •j>kat- nhI& hE|- •bu`>arI t9a
muiSlm-

@k "vsk>" •Ø- "saA" ka hota hE|
;s p/kar insab kI ma{a "ÖÖ" saA hogI|
ACve gehU& se insab ka vj>n lg -g
•Ø×Ô, ÚÖ- iklo g/am hoga|

`eityo& AOr flo& me& sal guj>rne
kI =tR nhI& hE| ;silye ik ALLah tÜala
ka f>rman hE^

﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [سورة الأنعام: من الآية ١٤١]

Anuvad^ «AOr wskI k9a: ke idn wska
hk> •j>kat Aaid- Ada kro|» •sUr†
AnAam, Aayt^ ÓÖ-

Agr ibna iksI lagt ke isca: hu:
ho to wsme& AinvayR ma{a •Ó/Ö- hE|
AOr Agr lagt v ki9na: se isca: kI g:
ho to •Ó/Ö- hE| ;silye ik nbI ﷺ ka
f>rman hE^

(فيما سقت السماء والأثمار والعيون أو كان عثرياً: العُشر، وفيما سقي بالسواني

أوالنضح: نصف العُشر) (أخرجه البخاري)

Anuvad ^ •ijs kI isca: vqar, nhro& ya
c+mo& se hu: ho, ya vh `etI nhr Aava
c+ma ke iknare pr ho to wsme& •Ó/ÓÒ-
hE| AOr ijskI isca: rh: cla kr Aava
W/; pr panI lad kr lakr hu: ho to
wsme& •Ó/ÔÒ- hE|- •;se bu`>arI ne
irvayt ikya hE-

➤ **cO¶I ik>Sm** ^ Vyapairk saman ^

yh vh mal hE ijse musliman ne
Vyapar ke ilye tEyar kr r`a ho| cahe
vh iksI -I ik>Sm ka ho|

yh j>kat ke mal se Ai.k sa.arA
AOr Aam hE| jb yh saman insab tk
phu%c jayega to ;s me& j>kat vaijb ho
jayegI| ;s mal me& yh @tbar ikya
jayega ik wskI k>Imt sona AOr ca&dI
ke insab tk phu%c jaye| ÔÒ dInar Ú×
g/am sone ke brabr hota hE| AOr ÔÒÒ
idrhM ×Û× g/am c&adI ke brabr hota
hE| @k sal bIt jane pr Vyapairk mal
ka sone AOr ca&dI se Anuman lgaya
jayega ik g>rIb logo& ka ws me& iktna
ihSsa hoga| ;s me& `>rId kI k>Imt ka
@tbar nHI& hoga| biLk sal pUra hone
pr j>kat inkalte smy wskI k>Imt ka
@tbar hoga|

;sme& vaijb ma{a pUrI k>Imt ka
 calIsva& (۱/۴۰) ihSsa hE| Vyapairk mal
 ka la- yid insab ko phu%c rha ho to
 wsko -I Asl mal me& imla kr wskI
 j>kat Ada kI jayegI| ;s me& sal pUra
 hone ka ;Ntjar nhI& ikya jayega|
 lEikn yid "Asl mal" insab tk la- ko
 imla kr phu%c rha ho to insab ke
 phu%cne ke smy se lekr sal ke AarM-
 hone ka @tbar hoga|

➤ **pa%cvI ik>Sm^** `inj pda^R AOr -UmI
 `>j>ana|

kã `inj pda^R^ ;s me& hr vh cIj>
 AatI hE jo j>mIn ke ANdr hI pEda hokr
 inkltI hE, ijs kI k>Imt hotI hE prNtu
 vh vnSpit nhI& hotI| jEse sona,
 ca&dI, loha, ta&ba, k>ImtI pT^r, AOr
 tEl Aaid| ;n sb cIj>o& ke ANdr j>kat
 vaijb hE| ;skI dlIl ALLah tÜala ka yh
 Aam AOr sa.ar^ f>rman hE^

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

[سورة البقرة: من الآية ۲۶۷]

Anuvad^ «@e :man valo! ApnI piv{ Aay
 me& se AOr .rtI me& se tuMhare ilye
 hmarI inkalI hu: cIj> me& se `>cR
 kro|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÔØÛ-

At# ;sme ko: sNdeh nhI& ik `inj
pdaR ws me& se hE ijse ALLah ne
hmare ilye -Uim se inkala hE|

Ai.ktr iv³ano& ka khna hE ik
;sme& j>kat ws smy AinvayR hogI jb vh
insab ko phu%c jaye| "nk>dI j>kat me&
vaijb ma{a" pr Anuman lgate hu@e ;s
me& -I vaijb ma{a •ó/öò calIsva&
ihSsa- hoga| ;s me& sal bItne kI =tR
nhI& hE| biLk ijs smy yh mal imlega
ws me& j>kat vaijb ho jayegI|

•`- -UmI `j>ana^ ;ska AAR hE,
p/acInkal me& df>n ikya jane vala
`>j>ana jo j>mIn se p/aPt ho| ya yh
`>j>ana p/acIn kal me& to n df>n ikya
gya ho lEikn "da'l ;Slam" •;SlamI =asn
de=- "da'l hbR" •kaif>r =aasn de=-
Aava "da'lAh\d" me& pUvR rhne vale
kaif>ro& ne ;Nhe& -Uim me& df>n ikya
ho| AOr ;s `>j>ana pr kuf>/ kI ko:
in=anI pa: jatI ho, jEse wnka nam ho
ya ic{ ho ya wnke rajaAo& ka nam ho
ya ic{ ho| ya "sIb" (**Redcross**) kI in=anI
ho Aava kevl buto& ke ic{ ho|

lEikn Agr ws pr muslamno& kI kuv
in=ainya& mOjUd ho& jEse nbI 卐 ka nam
ho, ya iksI muiSIm `>lIf>a AARat
haikm ka nam ho, ya k>urAan kI ko:
Aayt ho, to yh "**luk>ta**" •yanI igrI

pD>I cIj>- manI jayegI| Agr ;s pr ko:
-I in=anI n ho jEse j>evr •Aa-Uq^
ho, Aava sone ca&dI ka Dla ho to vh -
I **luk>ta** •igrI pD>I cIj>- manI
jayegI|

;sko pane vala AadmI, logo& ko
phcnvane ke bad hI ;ska mailk hoga|
;silye ik yh @k muiSlm ka mal hE ijs
se A-I wskI SvaimTv AavaRat "imiLkYyt"
ke ANt hone ka }an nhI& huAa hE|

-UmI `>j>ane me& pa%cva •१/०-
ihSsa inkalna vaijb hE| Abu hurEra ﷺ
kI hdIs hE| ALLah ke rsUl ﷺ f>rmate
hE&^

(وفي الركاز الخمس)

Anuvad^ •-UmI `>j>ana me& pa%cva
•१/०- ihSsa j>kat vaijb hE|-

Ai.ktr iv³ano& AavaRat wlma ke smIp
imlne vala `>j>ana, cahe km ho ya
Ai.k, wsme& pa%cva •१/०- ihSsa j>kat
vaijb hE| AOr ;s •१/०- ko ws "m¥" me&
`>cR ikya jayega ijs me& "f>Ey" ke mal
ko `>cR ikya jata hE| "f>Ey" ws mal ko
kha jata hE jo = {u se ibna yu² ke
haisl ikya jata hE| sMpUaR wlma AOr
iv³ano& ke smIp =eq `>j>ana pane vale
ka hoga| hjrt wmr ibn `>]ab ﷺ ne @Esa

hI ikya 9a ik =eq `>j>ana pane vale
ke hvale kr idya 9a|

**ØÃ j>kat ka mal kha% `>cR ikya
jayega?**

vh log ijn ke ilye j>kat ke mal
ko idya ja skta hE, Aa° hE&^

•Ó- f>k>Ir log^ yh vh log hE&
ijn ke pas jIvn VytIt krne ke ilye
kuṛ -I n ho| ya kuṛ cIj>e& ho& ijn se
wnka kuṛ guj>ara ho jata ho| ;silye
@Ese logo& ke ilye sal -r ke `>cR ke
ilye j>kat ke mal me& se idya jayega|

•Ô- imSkIn log^ yh vh log hE&
ijn ke pas ;tna mal ho ijs se wnka
Aa.a kam ya Aa.e se kuṛ ij>yada kam cl
jata ho| A9Rat ;n logo& kI d=a AOr
halt f>k>Iro& se ACṽI hotI hE| At‡ ;n
logo& ko -I wn ke sal -r ke guj>are
ke ilye j>kat ke mal me& se idya
jayega|

•Õ- j>kat ;k»a krne vale log^ yh
vh log hE& jo j>kat dene valo& se
j>kat ko @ki{t A9va ;k»a krte hE&|
AOr wskI surxa krte hE& t9a srkar kI
Aa}a se wsko hk>dar logo& ke bIc
ba&:te hE&| At‡ @Ese logo& ko ;s mal

me& se wnKI mj>dUrI ke brabr idya jayega|

•Ö- idl joı>ne ke ilye^ ;n

logo& kI dO ik>Sm hE&^

➤ kaif>r log,

➤ muslman log,

kaif>r logo& se Ai-p/ay @Ese log hE& ijn ke muslman ho jane kI wMmId AOr Aa=a ho| ya wse dene se wske ATyacar se muslmano& kI surxa ho rhI ho, to @Ese logo& ko -I j>kat ke mal me& se idya jayega|

muslman se Ai-p/ay @Ese muslman hE& ijnke ";Slam" kI d<v>ta mk>sUd ho| Aıva ws jEse ke ;Slam lane kI Aa=a ho| to @Ese logo& ko -I j>kat ke mal me& se idya jayega|

•x- g>ulam •das- log^ AıRat @Ese g>ulam log ijnho&ne Apne mailko& se il`a pv>I kr lI ho| yanI vh Apne mailko& ko kuı mal dekr Aaj>ad ho jana cahte ho&| prNtu wnke pas ;tna mal nhI& ik vh wse de ske&| ;s d=a me& wnko j>kat ke mal me& se ;tna mal idya jayega ijs se vh Aaj>ad ho jaye&| AOr kuı iv³ano& ka khna hE ik j>kat ke mal me& se g>ulam `>rId kr Aaj>ad krna -I jayj> hE|

•Ø- k>jRdar •;^g/ahI- log^ yh
log dO p/kar ke hE&^

➤ jo Svy& Apne kar^ k>jRdar ho|

➤ jo ANy ke kar^ k>jRdar ho|

"jo Svy& Apne kar^ k>jRdar ho" se
Ai-p/ay vh log hE& ijNho&ne ApnI
Aav+ykta kI pUitR ke ilye ;^ ilya ho|
lEikn vh wse pUra n kr skte ho&| ;s
sUrt me& wn ko ;tna j>kat ka mal idya
jayega ijs se vh Apna k>jR Ada kr
ske&|

"jo iksI ANy ke kar^ k>jRdar ho"
se murad @Ese log hE& ijNho&ne Aaps
ke zg^>e sulzane ke ilye k>jR ilya
ho| @Ese logo& ko j>kat ke mal me& se
;tna idya jayega ijs se vh Apne k>jR
ke boz ko hLka kr ske&| cahe vh Svy&
.nI hI Kyo& n ho|

•Û- ALLah ke raSte me&^ ;s se
Ai-p/ay ijhad hE| At# @Ese mujaihd
ijn ko srkarI `>j>ana se vetn n iml
rha ho wnko j>kat ka mal idya ja skta
hE|

•Ú- musaif>r •A^Rat ya{I- log^
;s se Ai-p/ay vh ya{I h&E ijnka raSte
me& hI samane sf>r `>Tm ho gya ho| Ab
wn ke pas ;tna `>cRa ya pEsa n ho ijs
se vh Apne de= phu%c skte ho&| ;s

sUrT me& wnko ;tnI j>kat dI jayegI
ijs se vh Apne de= vaips ho ske&|

ALlah tÜala ne ;n sare logo& ka
v^Rn Apne ;s f>rman me& ikya hE^

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة
التوبة: ٦٠]

Anuvad^ «j>kat kevl i-xuko& ke ilye,
t^a in^Rno&, ws ke kayRktRaAo& ke
ilye, wnke ilye ijn ke idl prcaye ja
rhe hE&, das muiKt @v& çia logo& ke
ilye, ALlah ke magR me&, t^a yai{yo&
ke ilye, ALlah tÜala kI AOr se
AinvayR hE| AOr ALlah tÜala }an vala
ivvekkarI hE| •sUr† tOba, Aayt^ ØØ-

ÜÃ j>katul if{^

•k- ;ske "m+"A" •=aS{Iy- hone kI
ihKmt^

"j>katul if{" roj>adar ke ilye
bekar bato& AOr vo^I g>lityo& se
piv{ta t^a imSkIno& ke ilye `ana AOr
:d ke idn -Ik ma&gne se beinyaj>I ke
ilye "m+"A" hu: hE| ;skI dlIl ;Bne
ABbas ﷺ kI hdIs hE, vh f>rmate hE&^

(فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهراً للصائم من اللغو والرفث، وطعمة

للمساكين) (رواه أبو داود وابن ماجه)

Anuvad ^ • ALLah ke rsUl ﷺ ne "j>katul if{" ko roj>adar ke ilye bekar bato& AOr ٢٥٤I g>lityo& se piv{ta, t9a imSkIno& ke "`ane" ke ilye AinvayR ikya hE|- •;se Abu daWd AOr ;Bne maja ne irvayt ikya hE|-

•`- yh p/Tyek muiSIm mdR t9a AOrt, bD>e ٢٥٤e, Aaj>ad AOr gu>lam sb pr AinvayR AOr f>j>R hE| ;skI dlIl ;Bne wmr kI hdIs hE vh f>rmate hE&^

(فرض رسول الله ﷺ زكوة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلوة) (متفق عليه)

Anuvad ^ • ALLah ke rsUl ﷺ ne rmj>an kI "j>katul if{" @k "saA" `ujUr •saA ka A9R ;s se pUvR guj>r cuka hE- ya @k "saA" gehU&, p/Tyek gu>lam, Aaj>ad, mdR AOr AOrt, ٢٥٤e t9a bD>e musliman pr AinvayR ikya hE| AOr Aade= idya hE ik log nmaj> ke ilye jane se pUvR hI wsko inkal de&|-

•g- ;skI ma{a^ ;skI vaijb ma{a, =hr me& Aam tOr pr `aya jane vala g>Lla jEse gehU&, jO, `ujUr, ik=im=, pnIr, cavl A9va mk: Aaid ka @k "saA" hE| AOr @k saA lg-g •ô.óÛø- g/am hota hE|

Ai.ktr iv3ano& ke smIp ;s me& k>Imt inkalna jayj> nhI& hE| ;silye

ik ;s se rsUl 𑂔 kI Aaja kI Avhelna
hotI hE| AOr ;silye -I Kyo&ik yh
shaba ke Aml ke iv"2 hE|

•३- ;s ke inkalne ka smy^ ;ske
do smy hE&^

➤ @k jvaj> ka smy hE, jo :d ke
@k ya dO idn phle se AarM- hota hE|

➤ dUsra f>j>Ilt ka smy hE jo :d
ke idn f>j/ inklne se lekr :d kI
nmaj> kI AdaygI se ʹoD>a phle tk rhta
hE| ;silye ik nbI 𑂔 ne ;se logo& ke
nmaj> ke ilye inklne se phle hI Ada
kr dene ka Aade= idya hE|

:d kI nmaj> ke bad wska inkalna
jayj> nhI& hE| AOr ijs ne deer kr ke
inkalI to yh @k sa·arʹ sd\k>a hoga|
AOr wse ;s derI pr gunah -I imlega|

•१>- ;ske `>cR krne kI jgh^
"j>katul if>{" f>k>Iro& tʹa imSkIno&
me& `>cR ik jayegI| ;silye ik vh
dUsro& ke muk>aible me& ;ske ij>yada
hk>dar hE&|



;Slam
ka coʻa `Kn

rmj>an ke roj>e
r`na

ÓÃ roj>e kI pir-aqa^

➤roj>a ka =aiBdk AqR hE^ svRia
'k jana|

➤roj>a ka =aS{Iy AqR hE^ dUsrI
f>j/ ke wdy se sUyRaSt hone tk roj>a
toD>ne valI cIj> se 'k jana|

ÔÃ roj>a ka huKm^

rmj>an mhIne ke roj>e, ;Slam t9a
wske iv=al -vno& ka @k 'Kn AOr St&-
hE| ALLah tÜala ka f>rman hE^
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٣]

Anuvad^ «@e :man valo tum pr roj>e
•v/t jo rmj>an ke mhIne me& r`e jate
hE&- AinvayR ikye gye hE&, ijs p/kar
tum se phle logo& pr AinvayR ikye gye
9e| taik tum tk>va •ALLah se -y r`na-
AOr sdacar ka magR ApnaAo|» •sUr†
bk>ra, Aayt^ÓÚÕ-

(روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: بني الإسلام على
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وصوم رمضان، وحج بيت الله) (متفق عليه)

Anuvad^ •;Bne wmr ﷺ irvayt krte hE&
ik ALLah ke rsUl ﷺ ne f>rmaya^ ;Slam

pa%c cIj>o& pr k>aym hE^ ;s bat kI
gvahI dena ik ALLah ke AitirKt ko:
pUjne yoGy nhI&, t̄a muhMmd ﷺ ALLah
ke rsUl hE&| nmaj> k>aym krna| j>kat
dena| rmj>an ke roj>e r`na| AOr ALLah
ke pak ʾr •kaba- ka hj krna|- •;se
bu`>arI t̄a muiSlm ne irvayt ikya
hE|-

muiSlm smuday pr rmj>an ke roj>e
vqR dO ihjrI me& AinvayR ikye gye|

**ÕÃ roj>a kI f>j>Ilt AOr =aS{Iyta
kI ihk\mt^**

rmj>an ka mhIna, ALLah kI
Aa}akarI ka @k bhut bD>a mOsm hE|
wsko pa lena ALLah kI trf> se @k bD>I
neAmt •ini.- AOr f>J>l hE| ijse ALLah
tÜala Apne ijs bNde pr cahta hE krta
hE| taik wskI neikya& bv>e&, djeR
bulNd ho&, bura:ya& im̄ jaye& AOr
Apne p/-u ke sā wnka sMbN. sud<v> ho|
AOr ;silye -I taik wnke ilye mhan
p/itdan il`a jaye, Ai.k puNn imle,
wskI p/sNnta p/aPt ho, t̄a h/dy,
wske Dr AOr -y se -re rhe&| ;skI
f>j>Ilt •[eQ̄ta- me& inMnili`t dlIl
Aa: hE&|

•Ó- ALLah tÜala ka f>rman hE^

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٥]

Anuvad ^ «rmj>an ka mhIna vh mubark mas hE ijs me& k>urAan wtara gya| jo logo& ka magR d=Rk hE, AOr jo magRd=Rn @v& sTyasTy ke m)y in^Rayk hE, tum me& jo -I ;s mhIne ko paye wse roj>a r`na caihye, ha% jo rogi ho& Aava ya{a me& ho& to wNhe& dUsre idno& me& yh g^na pUrI krnI caihye| ALLah tÜala kI ;Cva tuMhare sa^ srlta kI hE, k^orta kI nhI&, vh cahta hE ik tum g^na pUrI kr lo, AOr ALLah tÜala ke p/dan ikye gye magRd=Rn ke Anusar wskI mihma ka v^Rn kro @v& wske k<t} rho|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÓÚ×-

•Ô- AOr nbI ﷺ ka f>rman hE^

(روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له

ما تقدّم من ذنبه) (متفق عليه)

Anuvad ^ •Abu hurEra رضي الله عنه irvayt krte hE& ik ALLah ke rsUl ﷺ ne f>rmaya^ ijs ne rmj>an ke roj>e :man AOr Svab kI nIit se r`e, to wske pUvR ke sMpU^R pap xma kr idye jate hE&|-

•;se bu`>arI t9a muiSIm ne irvayt ikya hE-

•Ö- AOr f>rmaya^

(وعنه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عزوجلّ إلا الصوم فإنه لي وأجزى به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلاف فيه أطيب عند الله من ربح المسك) (رواه البخاري ومسلم واللفظ له)

Anuvad^ •Abu hurEra ﷺ irvayt krte hE& ik ALLah ke rsUl ﷺ ne f>rmaya^ nekI ko ds guna se bv>a kr sat so guna tk kr idya jata hE| ALLah tÜala ka f>rman hE^ •-إلا الصوم •A9Rat roj>e ke AitirKt- ;silye ik vh mere ilye hE AOr mE& hI wska bdla du%ga| vh ApnI kamãvasna t9a `ana mere kara 9oD>ta hE| roj>a r`ne vale ke ilye do p/sNntaye& hE&| @k p/sNnta ";F>tar" ke smy hotI hE, jb ik dUsrI p/sNnta rb se mulak>at ke smy hogI| wske mu%h kI sOgN. ALLah ke smIp "mu+k" kI sOgN. se Ai.k pakIj>a hE|- •;se bu`>arI t9a muiSIm ne irvayt ikya hE, AOr =Bd muiSIm ke hE&-

ÖÃ roj>a dar kI duAa k>ubUl hotI hE| nbI ﷺ ne f>rmaya hE^

(للصائم عند فطره دعوة لاترد) (رواه ابن ماجه)

Anuvad ^ •roj>adar kI duAa ;F>tar ke smy r¥ nhI& kI jatI|- •;se ;Bne maja ne irvayt ikya hE-

;silye muslmano& ko caihye ik vh ;F>tar ke smy ko Apne rb se ma%gne AOr duAa krne me& g>nImt jane&| sM-v hE rb kI trf> se ko: zo&ka Aalge AOr p/lok kI sO-aGy p/aPt ho jaye|

•xÅALLah tÜala ne roj>adaro& ke sMman tªa wnkI ANY logo& se ANtrta ke ilye SvgR ka @k ³ar iv=eq kr r`a hE|

(عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ "الرَّيَّانُ" فإذا كان يوم القيامة، قيل: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أُغلق عليهم فلم يدخل منه أحدٌ) (متفق عليه)

Anuvad ^ •sh\l ibn sAd رضي الله عنه se irvayt hE, vh khte hE& ik ALLah ke rsUl ﷺ ne f>rmaya^ SvgR me& @k ³ar hE ijska nam "rYyan" hE| k>yamt ke idn kha jayega^ roj>edar kha% hE&.....? jb vh dai`>l ho jaye&ge to wse bNd kr idya jayega| ijsse ko: dUsra dai`>l n ho skega|- •;se bu`>arI tªa muiSlm ne irvayt ikya hE|-

•xÅ K>yamt ke idn Svy& roj>a, roj>edar ke ilye isf>air= •Anu=&sa- krega|

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب! منعتني من الطعام والشهوة فشفِّعني فيه، قال فُشِّفَعَانِ) (رواه أحمد)

Anuvad ^ • ABduLlah ibn Am/ ibn Aas ﷺ se irvayt hE, vh khte hE& ik ALLah ke rsUl ﷺ ne f>rmaya^ roj>a AOr k>urAan k>yamt ke idn bNde ke ilye Anu=&sa kre&ge| roj>a khega^ @e mere rb! mE& ne ;se `ane AOr kamãvasna se rok idya 9a| ;silye ;ske bare me& merI Anu=&sa k>ubUl kr lIijye| Aap f>rmate hE&^ to wnki Anu=&sa k>ubUl kr lI jayegi|-
 •;se Ah\md ne irvayt ikya hE|-

Ùã roj>a, muslman ko .EyR, shn=Iltā t9a =ikt ka AadI bna deta hE| ijs se vh ip/ytmaA t9a kamãvasna ko Tyag deta hE AOr nF>s •Aatma- pr iny&{^ AOr kN:^\ol r`ta hE|

Öã roj>a ke f>j>R hone kI =teR&^

iv³an ;s bat pr s&giot hE& ik roj>a, bailg> •VySk-, Aaik>l •biu²man-, SvS9 t9a muk>Im •invasI- muiSIm pr f>j>R hE&| AOr AOrt pr ws AvS9a me& f>j>R hE& jb vh mahvarI •**M.C.**- ke `>Un se piv{ ho| ;sI p/kar i==u ko jNm dene ke bad jo `>Un Aata hE ws se -I piv{ ho|

×ã roj>a ke sMman yoGy vStu@e&^

Óã muslmano& pr AinvayR hE ik vh hram ciJ>o& jEse^ g>Ibt, ip=unta AOr

dUsro& kI ;J>jt •sMman- pr hmla krne
 Aaid vStu@e& ijNhe& ALlah ne hram
 ikya hE, wn se prhej> •s&ym- kre&|
 AOr wn se ApnI j>ban ko piv{ AOr
 surixt r`e&| nbI ﷺ ka f>rman hE^

(ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)

(رواه البخاري)

Anuvad^ •@Esa VyiKt jo zUε bolna, t9a
 zUεa kmR krna n 9oD>e to @Ese VyiKt
 kI, ALlah tÜala ko ko: Aav+ykta nhI&
 hE ik vh Apna `ana AOr panI 9oD>e
 r`e|- •;se bu`>arI ne irvayt ikya hE-

ÔÃ "sh\rI" ka `ana n 9oD>e&e|

;silye ik yh `ana roje>dar kI shayta
 krta hE| ;s p/kar vh pÜra idn Aaram
 se guj>ar skta hE| t9a Apne kayo&R ko
 -I cuStI AOr furtI se kr skta hE| nbI
 ﷺ ne roj>edaro& ko, "sh\rI" ka `ana
 `ane pr Apne ;n =Bdo& me& w-ara
 hE^

(السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله

عز وجلّ وملائكته يصلون على المتسحرين) (رواه أحمد)

Anuvad^ •sh\rI brkt vala `ana hE|
 ;silye ;se mt 9oD>o, Agr ko: panI ka
 @k 9U%ε hI pI ske to wse hI pI le|
 ;silye ik ALlah tÜala, AOr wske
 f>ir+te sh\rI `ane valo& pr d"d -ejte
 hE&|- •;se Ahmd ne irvayt ikya hE-

ÖÃ suyRaSt hone ke iv+vas ho
jane pr ;F>tar me& jldI kre&| nbI ﷺ
ka f>rman hE^

(لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) (رواه البخاري)

Anuvad^ •log ws smy tk -la: me&
rhe&ge jb tk vh ;F>tar me& jldI krte
rhe&ge|- •;se bu`>arI ne irvayt ikya
hE-

ÖÃ "`tb" •kCcI `ujUr- ya pkI hu:
`ujUr se ;F>tar krna suNnt hE|

قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله ﷺ يفطر قبل أن يصلي، على رطبات، فإن لم تكن

رطبات فتمرات، فإن لم تكن، حسا حسوات من ماء) (رواه أبو داود)

Anuvad^ •Ans رضي الله عنه khte hE&^ ALLah ke
rsUl ﷺ nmaj> se pUvR "`tb" se ;F>tar
ikya krte 9e, Agr "`tb" n hotI to sU`I
`ujUr se, Agr yh -I n hotI to panI ke
cNd 3U/% se ;F>tar kr lete 9e|» •;se
Abu daWd ne irvayt ikya hE|-

xÃ Ai.k se Ai.k k>urAan pv>na,
ALLah ka ij>k/ krna, wskI p/=&sa
krna, sdk>a •dan- dena, ;h\san
•wpkar- krna| Ai.k se Ai.k nif>l pv>na
AOr dUsre nek kam krna|

(روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما

يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان،

فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة) (رواه

البخاري ومسلم)

Anuvad ^ «;Bne ABbas ﷺ irvayt krte hE& ik ALLah ke rsUL ﷺ -la: AOr `>Er `>Erat me& logo& me& sb se Ai.k data 9e, t9a sb se Ai.k data rmj>an me& ijb/a:l se mulak>at ke smy hote 9e| AOr ijb/Il Aap se rmj>an kI p/Tyek rat me& imlte 9e AOr Aap ke sa9 be.kr Aap ko ku>rAan =rIf> pv>ate 9e| ALLah ke rsUL ﷺ ijb/Il se mulak>at ke smy `>Erat •dan- krne me& tej> hva se -I bv> jate 9e|» •;se bu`>arI t9a muiSIm ne irvayt ikya hE-

ØÃroj>a ko toD> dene vali cIj>e& ^

ÓÃ idn me& jan bUz kr `ana pIna| ;sI p/kar roj>a toD> dene vali =eq tmam cIj>e&, jEse tak>t kI sU: •**Injection**- lgvana, ya mu%h se dva `a lena| ;silye ik yh -I `ane pIne ke huKm me& dai`>l hE| lEikn Agr 9oD>a sa `Un inkal ilya jaye jEsa ik iv=leq^ ke ilye inkala jata hE, to ;s se roj>a pr ko: p/-av nhI& p9>ega|

ÔÃ rmj>an me& idn me& s&-og krne se -I roj>a 9U: jata hE| roj>adar pr AainvayR hE ik vh ALLah se tOba kre ;silye ik wsne hurmt AOr man vale mhIne kI Avhelna kI hE| AOr

ws idn ko ijs me& sM-og ikya hE,
dUsre idno& me& pUra kre| AOr
"kF>f>ara" •pap)n- de| wska «kF>f>ara»
@k gu>lam ko Aaj>ad krna hE| Agr yh n
paye to lgatar do mhIne ke roj>e r`e,
Agr ;skI -I tak>t n ho to sa°
imSkIno& ko `ana i`laye| p/Tyek
imSkIn ko Aa.a "saA" gehU& ya ;ske
AitirKt @EsI cIj> ijse Aam tOr pr =hr
vale `ana mante ho&| ;skI dlil Abu
hurEra ﷺ kI hdIs hE| vh khte hE&^

(بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله! هلكت، قال:
ما لك؟ قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟
قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام
ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النبي ﷺ، فبينما نحن على ذلك أتى النبي ﷺ بعرق
فيه تمر، والعرق المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال
الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتئها - يريد الحرتين - أهل بيت
أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلِكَ) (رواه
البخاري ومسلم)

Anuvad^ •hm log nbI ﷺ ke pas bE°e 9e
ik @k AadMI Aaya AOr kha^ @e ALlah ke
rsUl! mera na= ho gya, Aap ne f>rmaya
Kya ho gya? wsne kha^ mE& ne roj>a kI
AvS9a me& ApnI pTnI se s&-og kr ilya|
ALlah ke rsUl ﷺ ne f>rmaya^ Kya
tuMhare ANdr @k g>ulam Aaj>ad krne kI
tak>t hE? wsne kha^ nhI&| Aap ne
f>rmaya^ Kya tuMhare ANdr ;tnI =iKt

hE ik do mhIne lgatar roj>a r`sko|
wsne kha^ nhI&| Aap ne f>rmaya^ ifr
Kya tum sae imSkIno& ko `ana i`la
skte ho? wsne kha^ nhI&|

Abu hurEra ﷺ f>rmate hE&^ nbI ﷺ
ohre rhe, AOr hm -I @Ese hI ae, ;tne
me& Aap ke pas `ujUr se -ra huAa @k
okra Aaya| Aap ne kha^ sval krne
vala kha% gya? ws ne kha^ mE& yha%
hU%| Aap ﷺ ne f>rmaya^ ;se lo AOr ;s
ko sdk>a me& ba%: do| ws Aadmi ne
kha^ @e ALLah ke rsUl! Kya muz se
Ai.k in.Rn pr? ALLah KI sOgN.! mdIna
ke ANdr mere rr valo& se Ai.k in.Rn
ko: dUsra nhI& hE| wski ;s bat pr Aap
;s trh h%se ik Aap ke da&t mubark
id`a: dene lge| ifr Aap ne f>rmaya^
jaAo Apne rr valo& ko hI i`la do|-
•;se bu`>arI tva muiSIm ne irvayt
ikya hE-

ÕÃ cuMma lena ya mel imlap se
vIyR igrana, Aava vIyR ka Svy& inkl
Aana, ya bar bar AOrt ko de`na ijs se
vIyR igr jaye| ;n me& se iksI -I kar
3ara Agr roj>adar ka vIyR inkl jaye
to wska roj>a ;U: jayega| AOr dUsre
idno& me& ;se pUra krna AinvayR hoga|
leikn =eq idn `ane pIne se `ka rhega|

ws pr "kF>f>ara" •pap)n- nhI& hoga|
lEikn wse tOba krnI caihye, Apne ikye
pr p̄tana caihye, xmadan kI ivntI
krnI caihye t̄a kamĀvasna ko -D>kane
valI p/Tyek vStu se dUr rhna caihye|

lEikn Agr vh so rha ho AOr roj>a
kI AvS̄a me& Svpndoq ho jaye, AOr
vIyR igr jaye to ;s se ws ke roj>e pr
ko: p/-av nhI& pD>ega| AOr n hI wsko
kuṛ dena hoga| lEikn Snan krna
AinvayR hoga|

ÖÃ jan bUz kr wl̄I krna| ĀRat
mu%h ke raSte se "meda" •pKva=y- me&
mOjUd cIj> ko inkalna| lEikn Agr Svy&
bg>Eer iksI Ai.kar ke inkl jaye to ;s
se ws ke roj>e pr ko: p/-av nhI&
pD>ega| nbI ﷺ ka f>rman hE^

(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض) (رواه أبو داود

والترمذي)

Anuvad^ •ijse wl̄I ho g: ws pr ko:
k>j>a nhI& hE| lEikn ijs ne jan bUz
kr wl̄I kI to wsko k>j>a krna hoga|-
•;se Abu daWd AOr i{imj>I ne irvayt
ikya hE-

×Ã mahvarI ya i==u jNm ke bad ka
`Un inklna| cahe idn ke phle -ag me&
inkle ya AiNtm me&, cahe sUyRaSt hone
ke ̄oD>e phle hI Kyo& n inkle|

roj>adar ke ilye behtr hE ik vh
 sI&gI n lgvaye| ijs se ws ke roj>e
 ;U;ne ka -y pEda ho jaye| ws ke ilye
 yh -I bhtr hE ik "**shayta ke tOr pr**"
 dene ke ilye -I `Un n inklvaye| lEikn
 Agr Aapat kal me& iksI rogI Aaid ko
 `Un dene kI Aav+yKta pD> jaye to de
 skta hE|

nksIr, `&asI, j>~>m, t9a da&t
 inkalne se `Un inkl jaye to roj>a pr
 ko: p/-av nhI& pD>ta|

UÃ kuʔ sa·ar^ Aade=^

ca% d de`ne se rmj>an ka roj>a
 r`na vaijb AOr AinvayR ho jata hE|
 ALLah tÜala ka f>rman hE^

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [سورة البقرة: من الآية ١٨٥]

Anuvad^ «tum me& jo -I ;s mhIne ko
 paye wse roj>a r`na caihye|» •sUr†
 bk>ra, Aayt^ ÓÚx-

ca% d de`ne ke p/ma^ ke ilye @k
 sCce pKke muslman kI gvahI kaf>I hE|
 ;skI dlil ;Bne wmr kI irvayt hE vh
 khte hE&^

(ترأى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أتى رأيت، فصام، وأمر الناس بصيامه،
 (رواه أبو داود والدارمي وغيرهما)

Anuvad^ •log ca% d de` rhe 9e to mE&
 ne ALLah ke rsUl ﷺ ko `br dI ik mE&
 ne ca% d de`a hE, to Aap ne -I roj>a

r`a AOr logo& ko -I roj>a r`ne ka
Aade= idya|- •;se Abu daWd t`a darmI
Aaid ne irvayt ikya hE-

p/Tyek de= me& roj>a ke msAla ko
vha% ke haikm ko so&p idya jaye, vh
roj>a r`ne n r`ne ijs cIj> ka -I
in^Ry kre wskI Aa}akarI AinvayR hogI|
Agr haikm muslman n ho to ws de= me&
mOjUd "**SlamI keNd/**" ke in^Ry pr Aml
ikya jayega| taik muiSlm smuday ka
s&g•n bak>I rhe|

dUrd=Rk yN{ se ca%d de`na jayj>
hE| rmj>an ke p/arM- A`va ;F>tar ke
p/ma^ ke ilye ANtirx iv}an t`a
istaro& ke de`ne pr iv+vas krna jayj>
nhI& hE| kevl ca%d de`ne pr iv+vas
ikya jayega| ALLah tÜala ka f>rman
hE^

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [سورة البقرة: من الآية ١٨٥]

Anuvad^ «tum me& jo -I ;s mhIne ko
paye wse roj>a r`na caihye|» •sUr†
bk>ra, Aayt^ ÓÚx-

jo "**mukLlf**"> bNda •ijs pr =rIyt
ke Aade=o& ka paln AinvayR hE- rmj>an
ke mhIna me& haij>r ho, ws pr roj>a
r`na AinvayR hE, cahe idn bD>a ho ya
٢٥٤a|

iv^3ano& ke smIp svoR[eQ• bat yh
hE ik p/Tyek de= me& rmj>an ke roje

kI AarM-ta ka iv+vas vha% se ca% d de`
kr hI hoga| ;s ilye ik iv³ano& ka ;s
bat pr s&g•n hE ik ca% d ke inklne kI
jghe& AOr smy Alg Alg hE&| yh ini+ct
bat hE, ;silye ik nbI ﷺ ka f>rman hE^
(صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً)
(أخرجه البخاري ومسلم)

Anuvad^ •ca% d de` kr roj>a r`o, AOr
wse de`kr hI roj>a r`na bNd kro,
lEikn Agr vh iksI p/kar nj>r n Aaske
to =aban mhIne ke tIs idn pUre kr
lo|- •;se bu`>arI t9a muiSlm ne
irvayt ikya hE-

roj>adar pr AinvayR hE ik vh
roj>a kI inYyt rat hI se krle, ;silye
ik nbI ﷺ ka f>rman hE^
(إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى) (متفق عليه)

Anuvad^ •kmoR& ka daro mdar inYyt pr
hE t9a p/Tyek VyiKt ke ilye vhI hE
ijskI wsne inYyt kI hE.....|-
•bu`>arI t9a muiSlm-

nbI ﷺ ka AOr f>rman hE^
(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنها)

Anuvad^ •f>j/ se pUvR jo roj>a ka
s&kLp nhI& krta to wska roj>a nhI&
hota|- •yh hf>sa kI hdIs hE ijse Ahmd

Abu daWd i{imj>I t9a ns: ne irvayt
ikya hE-

rmj>an mhIne ke bIc me& iksI ka
roj>a toD>na jayj> nhI& hE| isvay ;s
sUrT me& ik wse ko: wj>/ •karΛ- pe=
Aajaye, jEse mrIj> •rogI- ya musaif>r
ho jaye, ya @EsI AOrt ijse mahvarI
A9va i==u jNm ke bad ka `Un Aane lg
jaye, ya vh g-RvtI ho ya dU. ipla rhI
ho Aaid.....| ALlah tÜala ka f>rman hE^
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُحْرَ﴾ [سورة البقرة: من

[الآية ١٨٤]

Anuvad^ «prNtu tum me& se jo Vyikt
bImar ho A9va ya{a me& ho, to vh ANY
idno& me& gΛna pUrI kr le|» •sUr†
bk>ra, Aayt^ ÓÜÖ-

;silye @Esa rogI ijs pr roj>a
r`na ki•n ho t9a roj>a n toD>ne se
wsko ki•na: AOr kQ; phu%cta ho to
wske ilye jayj> hE ik vh rmj>an me&
roj>a toD> de| ifr ijs ne roj>e toD>e
hE& dUsre idno& me& wse pUra kr le|

g-RvtI t9a dU. iplane valI mihla
ko Agr kevl ApnI jan ka `>tra ho to
vh roj>a toD> sktI hE| ifr wse dUsre
idno& me& pUra krna hoga| ;s pr
iv³ano& ka s&g•n hE| ;silye ik vh @Ese

rogI ke mtRbe me& hE ijsko ApnI jan
ka `>tra hE|

AOr Agr ApnI jan t9a i==u ka
`>tra ho, ya kevl i==u ka `>tra ho to
-I roj>a toD> sktI hE| ifr ;se dUsre
idno& me& pUra kregI| ;skI dlIl Ans
kI yh "mrfUA" hdIs hE^

(إنَّ اللهَ وضعَ عنَ المسافرِ نصفَ الصلاةِ والصومِ، وعنَ الحبلِى والمرضعِ) (رواه

النسائي وابن خزيمة وهو حديث حسن)

Anuvad^ •Allah tÜala ne ya{I se Aa.I
nmaj> AOr roj>a km kr idya hE| ;sI
p/kar g-RvtI t9a dU. iplane valI AOrt
se -I|- •;se ns: AOr ;Bne `uj>Ema ne
irvayt ikya hE, AOr yh hdIs "hsn" hE|-
bUv>e AOr buiv>ya ko yid roj>a
r`ne me& s~>t ki9na: AOr mui+kl pe=
AatI ho to vh roj>a toD> skte hE&|
wnko p/Tyek idn ke bdle me& @k imSkIn
ko `ana i`lana hoga|

;skI dlIl yh hdIs hE ijse
bu`>arI ne Ata se irvayt ikya hE| Ata
ne ;Bne ABbas ko pv>te huye suna^

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾

Anuvad^ «AOr jo ;skI sam(yR r`te&
ho& •ifr -I roj>a n r`te ho&- to vh
log "if>d\ya" •p/it=ea.- me& @k in.Rn
ko -ojn de&|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÓÜÖ-
;Bne ABbas ﷺ f>rmate hE& ik yh
Aayt mNsU`> •inrSt- nhI& hE| yh ws

bUv>e AOr buiv>ya ke ilye hE ijnke
ANdr roj>a r`ne kI =iKt n ho| to vh
p/Tyek idn ke bdle me& @k imSkIn ko
'ana i`laye&ge|

ya{a, @Ese wj/ •karλ- me& se hE
ijs kI vjh se roj>a n r`na jayj> hE|
Ans ﷺ kI hdIs hE^

(كنا نساfer مع النبي ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)

(متفق عليه)

Anuvad^ •hm nbI ﷺ ke sa9 sf>r ikya
krte 9e| At† Aap roj>adar ko roj>a n
r`ne vale pr, AOr roj>a n r`ne vale
ko roj>a r`ne vale pr ko: doqaNveqλ
nhI& krte|- •bu`>arI t9a muiSIm|-



**;Slam
ka pa%cva `Kn**

hJj krna

ÓÃ hJj kI pir-aqa^

hJj ka =aiBdk A¹R hE^ s&kLp @v& in+cy krna| kha jata hE, •hmarI Aor fla% •Amuk- VyiKt ne hJj ikya- A¹Rat hmarI trf> s&kLp ikya AOr Aaya|

hJj ka =aS{Iy A¹R^ iv=eq p²it se iv=eq smy me& iv=eq =to&R ³ara ku>rbanI ke ilye mKka =rIf> ka s&kLp krna|

ÓÃ hJj ka huKm^

wMmt ;s bat pr s&giot hE ik xmta @v& =iKt r`ne vale VyiKt pr Aayu me& @k bar hJj krna AinvayR hE| tªa yh wn pa%c St&-o& me& se @k hE ijn pr ;Slam •mR iS¹r hE| ALlah tÜala ka f>rman hE^

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ﴾

[آل عمران: من الآية ٩٧]

Anuvad^ «logo& pr ALlah •tÜala- ke ilye, ;s `>ana kaba ka hJj krna vaijb hE, lEikn wn logo& pr jo ws tk phu%c skte ho&| AOr jo ko: kuf>/ kre to •krta rhe- ALlah •tÜala- pUre iv+v se inSp<h hE|» •sUr† AaleÃ;mran, Aayt^ ØØ-

AOr ALLah ke rsUl ﷺ ka f>rman hE^
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام

الصلوة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله) (متفق عليه)

Anuvad^ •;Bne wmr ﷺ irvayt krte hE&
ik ALLah ke rsUl ﷺ ne f>rmaya^ ;Slam
pa%c cIj>o& pr k>aym hE^ ;s bat kI
gvahI dena ik ALLah ke AitirKt ko:
pUjne yoGy nhI&, t9a muhMmd ﷺ ALLah
ke rsUl hE&| nmaj> k>aym krna| j>kat
dena| rmj>an ke roj>e r`na| AOr ALLah
ke ʀr •kaba =rIf>- ka hJj krna|
•;se bu`>arI t9a muiSlm ne irvayt
ikya hE|-

nbI ﷺ ne "hJjtul ivdaA" •AiNtm
hJj- me& f>rmaya 9a^

(يا أيها الناس إن الله فرض عليكم حج البيت فحجوا) (رواه مسلم)

Anuvad^ •@e logo! ALLah tÜala ne tum
pr piv{ ʀr, kaba =rIf> ka hJj AinvayR
ikya hE| ;silve tum hJj kro|- •;se
muiSlm ne irvayt ikya hE|-

**ÕÃ hJj kI f>j>Ilt t9a wske
=aS{anusarta kI ihk\mt^**

hJj kI f>j>Ilt •[eQ•ta- ke ivqy
me& bhut sare p/ma^ AOr dlil hE&| ;n
me& se @k p/ma^ ALLah tÜala ka yh
f>rman hE^

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾
 [سورة الحج، الآيتان ٢٧، ٢٨].

Anuvad ^ «AOr logo& me& hJj kI ٣oqλa kr do! vh tere pas pEdl -I Aaye&ge, t̄a dublI ptlI svairyo& pr -I, dUrS̄a ke s-I mago&R se Aaye&ge, Apna la-p/aPt krne ke ilye, t̄a wn in.Rairt idno& me& ALLah ke nam ko yad kre&ge, wn cOpayo& pr jo paltU hE&|» •sUr† hJj, Aayt^ ÔÙ, ÔÚ-

hJj sMpUλR muslmano& ke ilye lok t̄a p/lok dono& p/kar ke bD>e bD>e la-o& pr Aa.airt hE| ;s me& kaba =rIf> ka tvaf>, "sf>a" AOr "mrva" •do phaid>yo& ke nam- ke bIc "s:" krna, medane "Arf>a", "imna" AOr "muj>dilf>a" me& •hrna, k&krI marna, imna me& rat guj>arna, janvr j>Bh •v.- krna| sr ke bal mu&Dvana, ALLah se ink̄ta p/aPt krne ke ilye wska Ai.ktr Smrλ krna, Aaid jEsI ivi-Nn ik>Sm kI wpasnaye& mOjUd hE&| ;silye hJj paphn t̄a SvgR p/ve= ka @k bD>a karλ hE|

Abu hurEra ﷺ se irvayt hE vh khte hE& ik mE& ne rsUluLlah ﷺ ko f>rmate huye suna^

(من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (رواه

البخاري ومسلم)

Anuvad ^ •ijsne ;s ۳r ka hJj ikya,
AOr wsne s&-og t۹a duQkmR nhI& ikya,
to vh Apne papo& se @Ese piv{ ho jata
hE jEse ik vh ws idn ۹a, ijs idn wskI
ma% ne wsko jNm idya ۹a|- •bu`>arI
t۹a muiSlm-

Abu hurEra ﷺ hI se irvayt hE ik
rsUluLlah ﷺ ne f>rmaya^

(العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) (رواه

البخاري ومسلم)

Anuvad ^ •@k "wmra" dUsre "wmra" ke bIc
ka pap)n hE AOr "**hJje mb`r**" •ijs hJj
ko ALLah k>ub>Ul kr le- ka bdla SvgR
ke Alava ku۲ nhI& hE|- •bu`>arI t۹a
muiSlm-

Abu hurEra ﷺ se hI irvayt hE vh
f>rmate hE&^

(سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله ، قيل: ثم ماذا؟

قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور) (متفق عليه)

Anuvad ^ •ALLah ke rsUl ﷺ se p/+n
ikya gya ik kOn sa kmR sb se [eQo hE?
Aap ne f>rmaya^ ALLah AOr wske rsUl
pr :man lana, pU۲a gya ik ifr kOn sa?
f>rmaya^ ALLah ke p۹ me& ijhad krna|

puā gya ifr kOn sa? Aap ne f>rmaya^
"hJje mb"r"|- •bu`>arI t9a muiSIm-

(عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس
للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة) (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

Anuvad^ •ABduLlah ibn msWd رضي الله عنه se
irvayt hE vh f>rmate hE&^ ALLah ke
rsUl صلى الله عليه وسلم ne f>rmaya^ hJj AOr wmra brabr
krte rha kro ;silye ik yh in.Rnta @v&
papo& ko ;s p/kar im4a deta hE, ijs
p/kar lohar kI -°I, lohe, sone AOr
ca&dI ke gdlapn ko dUr kr detI hE|
AOr "hJje mb"r" ka puNn kevl SvgR
hE|- •;se i{imj>I ne irvayt ikya hE
AOr kha hE ik yh hdIs hsn AOr shIh
hE-

hJj ke bhut sare la- me& se @k
yh -I hE ik dUr draj> se Aaye huye
muslman Aaps me& @k dUsre se @Ese
S9an pr imlte hE& jo ALLah ke smIp sb
se ip/y hE| wnka Aaps me& pircy hota
hE, -la: ke kmOR& t9a tk>va •s&ym @v&
parsa:- me& Aaps me& shyog hota hE|
bato&, Smr^ @v& kmOR& me& @kTv pa:
jatI hE| ;sme& muslmano& ke ilye yh
p/i=x^ hE ik vh @kTv kI p/^alI
Apnaye&| AaS9a wpaSna w¥e+y, t9a
ma)ym pr jmaV ho| wnke ;s jmaVD>e se

Aaps me& shyog t9a ink5ta kI p/aiPt
hotI hE| AOr Aaps me& @k dUsre se
p/+no& ka Aadan p/dan hota hE| jEsa
ik ALLah tÜala ka f>rman hE^

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [سورة الحجرات، الآية ١٣]

Anuvad^ «@e logo! hm ne tuMhe& @k hI
pu'q AOr S{I se jNm idya hE| AOr
tuMharI jaitya% AOr p/jaitya% bna dI
hE&, taik tum @k dUsre ko phcano,
ALLah kI d<iQ5 me& tum sb me& sMmaint
vh Vyikt hE jo sbse Ai.k ALLah se
Drne vala hE| be=k ALLah tÜala
janne vala, AOr -lIÃ-a%it pirict hE|
•sUr† hujurat, Aayt^ ÓÕ-

ÖÃ hJj ke f>j>R hone kI =teR&^

•k-Ã iv³ano& ke bIc ;s me& ko:
mt-ed nhI& hE ik hJj ke AinvayR hone
kI pa%c =te&R hE| vh yh hE&^

- Ó- Ã ;Slam, •yanI muslman hona-
- Ô- Ã bui²,
- Õ- Ã VySk •bailg> hona-,
- Ö- Ã Svt&{ta,
- ×- Ã yoGyta @v& xmta,

S{I pr hJj ke AinvayR hone kI @k
=tR yh -I hE ik hJj ya{a me& ws ke
sa9 wska "mh\rm" mOjUd ho| •"mh\rm" ^

yanI @Esa sMbN.I ijs se ws S{I ka
ivvah hram ho|-

Kyo&ik nbI ﷺ ka f>rman hE Abu
hurEra ﷺ kI hdIs me& hE^

(لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلاومعها ذومحرم)

(متفق عليه)

Anuvad^ •ALLah AOr AiNtm idn
•p/lok- pr :man r`ne valI iksI S{I ke
ilye yh hlal nhI& hE ik vh @k idn kI
dUrI kI ya{a -I ibna Apne iksI "mh\rm"
ke kre|- •bu`>arI t;a muiSIm-

;SlamI .mR=aS{Iyo& •fuk>ha- ne
;n =toR& ko tIn -ago& me& ba%{a hE|

ÓÃ ;n me& se kuṛ cIjee& @EsI
hE& jo AinvayRta @v& shIh hone ke
ilye =tR hE&| jEse ;Slam AOr bui²,
;silye kaif>r AOr wNm] pr hJj AinvayR
nhI& hE, AOr n hI ;n dono& kI trf> se
hJj shIh hoga| ;silye ik yh dono&
"Ahle ;badt" me& se nhI& hE&|

ÔÃ ;n me& kuṛ @EsI hE& jo hJj ke
vaijb hone, AOr Ada hone ke ilye =tR
hE&| jEse bailg> AOr SvtN{ hona|
lEikn yh dono& hJj ke shIh hone ke
ilye =tR nhI& hE&| ;silye Agr ko:
bCca ya g>ulam hJj krta hE to wnka
hJj shI hoga| lEikn ;SlamI hJj ke tOr
pr wnka yh hJj kaf>I n hoga| •yanI
bCca jb bᵛ>a ho jayega, AOr g>ulam jb

Aaj>ad ho jayega to wnko ApnI trf> se
dobra hJj krna p>ega|-

ÕÃ ;n me& se kuʻ @EsI cIj>e& hE&
jo kevl f>jR> hone ke ilye =tR hE&|
jEse xmta @v& =iKt..... ;silye Agr ko:
xmta n r`ne vala VyiKt ki`na: w`a kr
hJj krta hE AOr magRVyy @v& svarI n
hone pr -I cl pD>ta hE to wska yh hJj
shIh hoga|

•`-Ã hJj me& p/itin·Tv ka huKm^

iv^3ano& ke bIc ;sme& ko: mt-ed
nhI& hE ik jo VyiKt hJj kI AdaygI kI
xmta r`ne se pUvR mr jaye to ws se
hJj kI AinvayRta `>Tm ho jatI hE|

lEikn Agr vh hJj kI xmta r`ne ke
p+cat mrta hE to Kya wska hJj mrne se
`>Tm hoga ya nhI&? ;s p/s&g me& •;n=a
ALlah- °Ik bat yh hE ik mrne vale ka
hJj `>Tm nhI& hoga| AOr wske vairso&
•Ai--avko&- pr ws ke mal me& se `>cR
krke hJj krna AinvayR hoga| cahe wsne
wskI visYyt •mr^asNn- kI ho ya n kI
ho| yh ws pr ç^ kI trh AinvayR hE|
jEsa ilya hE vEsa dena hoga| ;skI
dlIl ;Bne ABbas kI yh hdIs hE^

(إن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك، فقال:

أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، فهو أحقّ

بالوفاء) (رواه النسائي)

Anuvad •@k AOrt ne nJ>r •p/it}a-
 manI ik vh hJj kregI, lEikn phle hI
 wska dehaNt ho gya| wska -a: nbI ڤ ke
 pas Aaya AOr ;s ivqy me& p/+n ikya|
 Aap ڤ ne f>rmaya^ Kya Agr tuMharI bhn
 pr ڤا hota to tum wse Ada krte? wsne
 kha jI ha%, Aap ڤ ne f>rmaya^ ALLah
 kI p/it}a ko pUra kro| ;silye ik vh
 pUra ikye jane ka Ai.k hk>dar hE|-
 •;se ns: ne irvayt ikya hE-

•g-Ā ijs Vyikt ne Svy& Apna hJj n
 ikya ho Kya vh dUsro& kI trf> se hJj
 kr skta hE?

wict bat yh hE ik dUsro& kI trf>
 se ws smy tk hJj nhI& kr skta jb tk
 ik phle ApnI trf> se hJj n kr le|

;ska p/ma^ yh p/is² hdIs hE ijs
 me& Aaya hE ik nbI ڤ ne @k Aadmi se
 suna vh kh rha 9a^

(ليک عن شبرمة) @e ALLah! "=ub'ma" kI Aor se
 hJj ko ku>bUl f>rma| Aap ڤ ne f>rmaya
 ik =uub'ma kOn hE? ws Vyikt ne kha^
 mera -a: ya sMbN.I hE| Aap ڤ ne
 f>rmaya^ Kya tum ne ApnI trf> see hJj
 kr ilya hE.....? ws ne kha nhI&| Aap ڤ
 ne wn se f>rmaya^ phle ApnI trf> se
 hJj kro, ifr =ub'ma kI Aor se krna|-
 •;se Ahmd, Abu daWd, AOr ;Bne maja ne

irvayt ikya hE, t9a bEhk>I ne irvayt krne ke bad kha hE ik yh hdIs shIh hE|-

•Ik bat yh hE ik duble, xmta n r`ne vale kI Aor se hJj me& p/itin.Tv bnana jayj> hE| ;skI dlI l f>J>l ibn ABbas kI hdIs hE ijs me& hE ik ">qAm" k>bIla kI @k AOrt ne kha^ @e ALLah ke rsUl! ALLah tÜala ka Apne bNdo& pr hJj f>j>R hone me& jo hk> hE vh mere ipta jI pr @Ese smy vaijb huAa jb ik vh ATyNt bUv>e ho cuke hE&| svarI pr nhI& i;k skte, Kya me& wnki Aor se hJj kr sktI hU%? Aap ﷺ ne f>rmaya^ jI ha%| yh bat Aap ne "**hJjtulivda**"

•AiNtm hJj- me& f>rma: 9I|- •bu`>arI t9a muiSIm, AOr =Bd bu`>arI ke hE&|-

•**3-Ä** Kya hJj ko tTkal Ada krna AinvayR hE ya wse ivl&b kr skte hE&?

;n=a ALLah, iv^ano& ka [eQo k9n yhI hE ik AinvayRta kI =te&R pa: jane pr tTkal AinvayR hE| Kyo&ik ALLah tÜala ka yh k9n samaNy AOr Aam hE^

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [سورة آل عمران، الآية: 97]

Anuvad^ «logo& pr ALLah tÜala ke ilye, `>ana kaba ka hJj krna vaijb

hE, lEikn wn logo& pr jo ws tk phu%
skte ho&|» •sUr† Aale ;mran, Aayt^ ŪÛ-

ALLah tÜala ka AOr f>rman hE^

﴿وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٦]

Anuvad^ «AOr hJj @v& wmre ko ALLah
tÜala ke ilye pUra kro| •sUr† bk>ra,
Aayt^ ÓÛØ-

hdIs me& Aaya hE ;Bne ABbas ﷺ
irvayt krte hE& ik nbI ﷺ ne f>rmaya^
(تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) (رواه أبو
داود وأحمد والحاكم وصححه)

Anuvad^ •f>j>R hJj ko tTkal kr lo|
;silye ik iksI ko nhI& pta ik kl wse
Kya cIj> pe= Aajaye|- •;se Abu daWd
AOr Ahmd ne irvayt ikya hE| tªa haikm
ne irvayt krne ke bad shIh kha hE|-

×Ã hJj ke Arkan^

hJj ke car Arkan hE&^

- k- ;hram ba%.na|
- `- mEdane Arf>a me& •hrna|
- g- tvaf>e ij>yart krna|
- r- sf>a AOr mrva ke bIc s: krna|

yh vh Arkan hE& injke ibna hJj
pU^R nhI& ho skta| ;nkI kuª Vya~ya
nIce hE^

kÃ phla `Kn^ ;hram ba%.na^

ÓÃ ;hram kI pir-aqa^ hJj me&
p/ve= kI inYyt krna|

ÔÃ ;hram kI mIk>ate&^ hJj me& ;hram
kI mIk>ate& dO p/kar kI hE&^
ÓÃ smy valI mIk>ate&|
ÔÃ Sʻan valI mIk>ate&|

✽smy valI mIk>ato& kI Vya~ya^

;n se Ai-p/ay hJj ke mhIne hE&|
ijnke ivqy me& ALLah tÜala ka f>rman
hE^

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٧]

Anuvad^ <hJj ke mhIne in.Rairt hE&|>

•sUr† bk>ra, Aayt^ ÓÛÛ-

yh mhIne yh hE&^ =Vval,
j>ulk>Ada, AOr j>ulÃ ihJja|

✽Sʻan valI mIk>ato& kI Vya~ya^

;n se Ai-p/ay vh sImaye& hE& ijn
ko mKka jane vale hajI log, ibna
;hram ba&.e nhI& fla&g kr ja skte|
AOr yh kul pa%c hE&^

ÓÃ "j>ulhulEf>a" ^ ;ska vtRman
nam "Aabar Ali" hE| yh mdIna valo& kI
mIk>at hE| yh mKka se ÕÕØ iklo mI:r
AʻRat ÔÔÖ mIl kI dUrI pr iSʻt hE|

ÔÃ "joh\fa" ^ yh @k ga%v hE ;s
ke AOr "bhre Ahmr" •lal sagr- ke bIc
kI dUrI ÓÒ iklo mI:r hE| mKka se ÓÚÒ

iklo mI:r, A:rAt ÓÒÒ mIl kI dUrI pr
iS:t hE|

yh ims/, =am, mg>irb •murak=-,
t:a jo de= wnke pI:re hE&, jEse ANdlus
•Spain-, "m AOr tk"r valo& kI mIk>at
hE| ;s smy log raibg> namI jgh se
;hram ba%.te hE&, ;silye ik yh 9oD>a
sa wske brabr pD>ta hE&|

ÖÃ "ylmlm"ˆ ;ska vtRman nam
"sAidYya" hE| yh ithama ka @k phaD>
hE| yh mKka se ÛÔ iklo mI:r A:rAt ÖÚ
mIl kI dUrI pr iS:t hE| yh ymn, javh
ihNduStan, t:a cIn valo& kI mIk>at
hE|

ÖÃ "k>rne mnaij>l"ˆ ;ska vtRman
nam "sEleÃ kbIr" hE| yh mKka se ÛÔ
iklo mI:r A:rAt ÖÚ mIl kI dUrI pr iS:t
hE| yh nJd AOr ta;f> valo& kI mIk>at
hE|

×Ã "j>ate ;kR"ˆ ;ska vtRman nam
"j>rIba" hE| ;ska nam "j>ate ;k>R" ;s
p/kar pD>a ik ;sme& @k ";kR"> 9a jo
9o:e phaD> ko khte hE&| yh mKka se ÛÔ
iklo mI:r A:rAt ÖÚ mIl kI dUrI pr iS:t
hE| yh pUvR ;rak> AOr :ran valo& kI
mIk>at hE|

yh jgh valI mIk>ate& AOr sIma@e&
hE&, ijNhe& ;hram ke ibna fla&g kr,

hJj ya wmra krne vale ke ilye, mKka
jana jayj> nhI& hE|

ALlah ke rsUl ﷺ ne ;n mIk>ato&
ko byan f>rmaya hE| ;Bne ABbas kI
hdIs me& hE vh khte hE^

(وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد
قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنّ هنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحجّ
أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) متفق عليه.

Anuvad^ •ALlah ke rsUl ﷺ ne mdIna
valo& ke ilye "j>ulhulef>a" ko mIk>at
bnaya hE| AOr =am valo& ke ilye
"johf>a" ko, nJd valo& ke ilye "k>rne
mnaij>l" ko, AOr ymn valo& ke ilye
"ylmlm" ko mIk>at bnaya hE| yh mIk>at
wn ke ilye -I hE&| AOr ;sI p/kar ws
ke ilye -I hE& jo ;n logo& me& se n
ho lEikn vh hJj ya wmra ke ;rade se
Aaye AOr ;nke pas se guj>re| AOr jo
log mIk>at ke ANdr rhte hE&, vh vhI&
se ;hram ba%.e&ge jha% pr hE&| At†
mKka vale mKka hI se ba%.e&ge|-
•bu`>arI t'a muiSlm-

muiSlm =rIf> me& jaibr ﷺ kI hdIs
hE^

(مُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عَرَقٍ)

Anuvad^ •;rak> valo& ke ;hram ba%.ne
kI jgh "jateã ;k>R" hE|-

jo VyiKt raSte me& ;n mIk>ato&
me& se iksI -I mIk>at ke pas se

guj>re to vh wn me& se ijn mIk>at ke
smIp hoga, vHI& se ;hram ba%. lega|
;sI p/kar jo hva: jhaj> pr svar ho vh
ANtirxa hI se ;n me& se ijs mIk>at ke
samne hoga ;hram ba%. lega|

kuṛ hajI @Esa krte hE& ik jḂa
@yrpōṚ pr jhaj> wtrne ke bad ;hram
ba%.te hE&| @Esa krna jayj> nhI& hE|
;s ilye ik jḂa kevl jḂa valo& kI
mIk>at hE, yanI wn me& se jo log hJj
ya wmra kI inYyt r`te hE&| g>er jḂa
vaisyo& me& se ijsne jḂa se ;hram
ba%.a ws ne @k "AinvayR mIk>at" se
;hram ba%.na ṛoD> idya| @EsI sUrt me&
wsko "if>d\ya" •p/itdan- dena AinvayR
hoga|

jo VyiKt ibna ;hram ba%.e mIk>at
se Aage inkl Aaye ws pr AinvayR hE ik
vh punḡ mIk>at tk vaips Aaye, Agr vh
vaips nhI& loṡta hE AOr wske ANdr se
;hram ba%. leta hE to wsko "if>dya"
•p/itdan- ke tOr pr @k bkrI dena
pṛ>egI| Aava W%ṡ ya gay ka satva&
ihSsa ku>rban krna AinvayR hoga| ;se
hrm ke imSkIno& •dird/o&- tṛa
f>k>Iro& •k&galo&- ke bIc ba%ṡ dega,
Svy& ws me& se kuṛ -I n `ayega|

ÕÃ ;hram ba%.ne ka trIk>a|

;hram ba%.ne se pUvR muSthBb
•[eQ°- hE ik Snan krke saf> suªra ho
kr =aS{anuser ijtna bal ka;na jayj>
hE wse ka; kr AOr bdn me& `u+bU lga
kr tEyar ho jaye| pu'q isla huAa
kpD>a inkal de&ge, AOr saf> suªrI dO
sf>ed cadr phn le&ge|

du'St bat yh hE ik ;hram ba%.ne
kI ko: iv=eq nmaj> nhI& hE| lEikn Agr
Acank f>jR> ka smy Aa jaye to wske
bad ;hram ba%.e&| ;silye ik nbI 𐌆 ne
nmaj> ke bad ;hram ba%.a ªa| ifr wse
Ai.kar hE ik vh "**tmTtoA**" "**ik>ran**" AOr
"**;f>rad**" tIno& ikSm ke hJjo& me& se
ijska cahe ;hram ba%.e|

➤ "**hJje tmTtoA**" kI **pir-aqa**^

AªRat^ hJj ke mhIno& me& wmra ka
;hram ba%.na| AOr ws se f>airg> hokr,
ifr wsI vqR hJj ka ;hram ba%.na|

➤ "**hJje ik>ran**" kI **pir-aqa**^

AªRat‡ wmra AOr hJj dono& ka @k
saª ;hram ba%.na| ya phle wmra ka

;hram ba%.na, ifr wska tvaf> AarM-
krne se pUvR hJj ko ws me& dai`>l kr
lena| ;s p/kar mIk>at se wmra AOr hJj
dono& kI inYyt kre ya wmra ka tvaf>
AarM- krne se pUvR inYyt kre, AOr
dono& kI tvaf> AOr s: kre|

➤ "hJje ;f>rad" kI pir-aqa^

AaRat, mIk>at se kevl hJj ka
;hram ba%.na, AOr ;hram me& ws smy tk
bak>I rhna jb tk ik hJj ke sMpUaR kmR
pUre n ho jaye&|

"hJje tmTtoA" AOr "ik>ran" krne
vale yid mKka =rIf> ke vasI nhI& hE&
to wn ko if>d\ya dena AinvayR hoga|

;s ivqy me& mt-ed hE ik ;n me&
se kOn sa hJj svoR[eQo hE| coI ke
bD>e bD>e iv³ano& ka khna hE ik
svoR[eQo hJj "tmTtoA" hE|

ifr jb ;n me& se iksI @k hJj ka
;hram ba%. le, to ;ske bad ;s p/kar
tlibya pukare&ge^

(لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك
لك.)

Ai.k se Ai.ktr tlibya pukare&,
AOr pu'q bulNd Aavaj> me& pukare&|

ÖÃ ;hram me& vijRt cIj>e&^

;ska A9R yh hE ik ;hram ba%.ne ke
kar^ ijska krna ;hram ba%.ne vale pr
hram ho jata hE| AOr yh kul Ū hE&^

ÓÃ bdn ke iksI -I ihSse se,
mu&Dva kr ya iksI dUsre triK>e se,
bal ko `>Tm krna| Kyo&ik ALLah tÜala
ka f>rman hE^

﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٦]

Anuvad^ «AOr Apne isr n mu&DvaAo jb
tk ik bil, bLI S9l tk n phu%c jaye|»
•sUr† bk>ra, Aayt^ ÓŪØ-

ÖÃ na`un ka:na, ;s ilye ik ;s se
iv[am p/aPt hota hE| Kyo&ik yh bal
`>Tm krne kI trh ho jata hE| lEikn
Agr ko: kar^ ho to na`un ka: skte hE&
ijs p/kar ik ko: kar^ Aa jane pr bal
-I mu&Dva skte hE&|

ÖÃ sr vkna^ ;silye ik nbI ﷻ ne
;hram ba%.ne valo& ko pgD>I phnne se
roka hE| AOr Aap ne ws ;hram ba%.ne
vale ke ivqy me& f>rmaya 9a ijse wskI
svarI ne igra idya 9a ik ;ske sr ko
mt vko ;s ilye ik yh plRy ke idn
tlibya pukarte huye w9aya jayega|-
•;se bu`>arI t9a muiSIm ne ;Bne ABbas
se irvayt ikya hE-

AOr ;Bne wmr ﷺ kha krte 9e^
 Aadmi ka ;hram wske sr me&, jbk AOrt
 ka ;hram wske cehre me& hota hE| •;se
 bEhk>I ne ACrI snd se irvayt ikya
 hE-

ÖÃ pu'qo& ka Apne bdn me& isle
 hu@e kpD>e ya moj>e phna| ;skI dlIl
 ABduLLah ibn wmr kI irvayt hE,
 f>rmate hE&^

(سنن رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا
 البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسّه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين
 فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) (رواه البخاري ومسلم)

Anuvad^ •Allah ke rsUl ﷺ se p/+n
 ikya gya ik muh\irm •;hram ba%.ne
 vala- Kya phne? Aap ﷺ ne f>rmaya^
 muhirm, k>mis, pgD>I, pajama, juBba,
 AOr @Esa kpD>a ijs me& vrs •@k `u+bU
 ka nam- ya j>af>ran lga ho, n phne
 AOr n hI moj>e phne| lEikn Agr jUte n
 ho& to moj>e phn skta hE, lEikn ;Nhe&
 ka; le yha% tk ik dono& ;~>no& se
 nIce ho jaye|- ;se bu`>arI t9a muiSlm
 ne irvayt ikya hE|

×Ã sugN. lgana^ ;silye ik nbI ﷺ
 ne sf>van ibn yala ibn wmYya kI hdIs
 me&, @k Aadmi ko sugN. ke .ulne ka
 Aade= idya 9a| AOr Aap ﷺ ne ws
 muh\irm ke bare me& f>rmaya ijse wskI

W%:nI ne igra idya 9a ik^ ;sko hanUt
•A9Rat sugN.- n lgaAo|- •;se bu`>arI
t9a muiSlm ne ;Bne ABbas kI hdIs se
irvayt ikya hE-

AOr muiSlm ke =Bd yh hE&^

(ولا تمسوه بطيب)

Anuvad^ •;se sugN. n lgaAo-

;Bne wmr kI pUvR hdIs ke Anusar
muh\irm pr ;hram ba%.ne ke p+cat bdn
me& sug&. lgana hram hE|

ØÃ `u+kI •S9l- ke i=kar ko
marna|

;skI dlIl ALLah tÜala ka yh
f>rman hE^

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ [سورة المائدة، الآية: 95].

Anuvad^ «@e :man valo! jb tum hJj
A9va wmra ka ;hram ba%.e rho to i=kar
mt kro|» •sUr† ma;da, Aayt^ Ū×-

;ska i=kar krna hram hE y+ip
wsko k>Tl •hTya- ya 9ayl n kre|
Kyo&ik ALLah tÜala ka f>rman hE^

﴿وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا﴾ [سورة المائدة، الآية: 96].

Anuvad^ «AOr .rtI ka i=kar AvE. ikya
gya jb tk ik tum ;hram kI halt me&
ho|» •sUr† mayda, Aayt^ ŪØ-

ÛÃ ivvah krna^ muh\irm •;hram
ba%.ne vala- n to Svy& ivvah krega
AOr n hI vLI ya vkIl bn kr ANY kI
=adI krvayega| ;skI dlIl wqman ﷺ kI
"mrfUA" hdIs hE^

(لاينكح المحرم ولاينكح ولاينكح) (رواه مسلم).

Anuvad^ •muh\irm n to inkah krega
AOr n hI inkah krvayega| AOr n hI
ivvah p{ -ejega|- •;se muiSIm ne
irvayt ikya hE|-

ÛÃ =rmgah me& s&-og krna| ALLah
tÜala ka f>rman hE^

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٧].

Anuvad^ «;silye jo ;n me& hJj
in.Rairt kre vh ApnI pTnI se shvas n
kre|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÓÛÛ-

;Bne ABbas f>rmate hE& ik ;ska
A9R hE^ "ijmaA" •s&-og|- ;skI dlIl
ALLah tÜala ka yh f>rman hE^

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٧].

Anuvad^ «roj>e kI rato& me& ApnI
piTnyo& se imlne kI tuMhe& Anumit
hE|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÓÛÛ-

A9Rat^ ijmaA •yanI s&-og|- kI
;jaj>t hE|

ÛÃ =mRgah ke AitirKt imlap kI
;C9a se imlna julna| ya cuMma lena ya
hUna AOr kam vasna se de`na| Kyo&ik

yh s&-og kI trf> @k ma)ym hE jo ;n
idno& me& hram hE ;silye @Esa krna
hram hoga|

;s ivqy me& pu'q t'ia S{I dono&
sman hE&| leikn S{I ka pu'q se
kuṛ cIj>o& me& ivi-Nn huKm hoga|
;silye ik S{I ka ;hram wske cehre me&
hE| burk>a ya nk>ab Aaid se wska ṽkna
hram hoga| ws pr dStana phnna -I hram
hE| ;skI dlIl ;Bne wmr valI hdIs hE
ijs me& hE ik^

(ولاتنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين) (رواه البخاري)

Anuvad^ •muh\irm •;hram ba%.ne valI-
AOrt n to nk>ab Aov>egI AOr n hI
dStane phnegI|- •;se bu`>arI ne
irvayt ikya hE-

;Bne wmr ﷺ ka f>rman hE^

(إحرام المرأة في وجهها) (رواه البيهقي بإسناد جيد)

Anuvad^ •AOrt ka ;hram wske cehre
me& hE- •;se bEhk>I ne ACṛI snd se
irvayt ikya hE-

Aay=a rij>yLlahu Anha- se irvayt
hE vh f>rmatI hE& ik^

(كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت

إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) (رواه أبو داود وابن ماجه

وأحمد وسنده حسن)

Anuvad ^ •hm rsUl ﷺ ke sa9 9I&| AOr hm ne ;hram phna huAa 9a| svar log hmare pas se guj>r rhe 9e| jB vh hmare brabr se guj>rte to hm me& se hr @k Apne pdeR ko Apne sr se igra kr cehre pr kr letI&| jB vh hm se Aage inkl jate to hm vse cehre ke Wpr se h9a dete- •;se Abu daWd, ;Bne maja, AOr Ahmd ne irvayt ikya hE, ;skI snd hsn hE-

jo cIj>e& pu'qo pr hram hE& vh iS{yo& pr -I hram hE&, jEse bal `>Tm krna, na`un ka9na, i=kar kI hTyA Aaid| ;silye ik yh sMbo.n sa.ar^ hE, ijsme& iS{ya& -I dai`>l hE&| isvay isle hu@e kpD>e AOr moj>e phnne t9a sr va%pne ke, ;silye ik yh pu'qo& ke sa9 ivi=Q9 hE|

•`- **dUsra** `Kn^ mEdane Arf>a me& 9hrna| nbI ﷺ ka f>rman hE^

(الحج عرفة) (رواه أحمد وأصحاب السنن)

Anuvad ^ •hJj Arf>a ke mEdan me& 9hrne ka nam hE|- ;se Ahmd AOr sunn ke le`ko& ne irvayt ikya hE|

•g- **tIsra** `Kn^ tvaf>e ;f>aj>a krna| ALlah tÜala ka f>rman hE^

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [سورة الحج، الآية: ٢٩].

Anuvad^ «AOr ALlah ke p/acIn ۳r kI
pirk/ma kre&|» •sUr† hJj, Aayt^ ÔÛ-

•۳- cO۹a 'Kn^ s: krna •yanI sf>a AOr
mrva phaD>I ke bIc clna|- nbI ﷺ ka
f>rman hE^

(اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) (رواه الإمام احمد والبيهقي)

Anuvad^ •s: kro ;silye ik ALlah
tÜala ne tum pr s: ko AinvayR ikya
hE- •;se ;mam Ahmd AOr bEhk>I ne
irvayt ikya hE-

ØÃ hJj ke vaijbat^

hJj me& sat cIj>e& vaijb hE&^

ÓÃ mIk>at se ;hram ba%.na|

ÔÃ jo VyiKt idn hI me& Arf>a
phu%c jaye ws ke ilye sUyRaSt hone tk
Arf>a me& •hrna|

ÕÃ muj>dilfa me& rat guj>arna|

ÖÃ "t+rIk>" •óó, óô, óõ,
ij>lihJja- ke idno& kI rato& ko imna
me& guj>arna|

×Ã k&krI marna|

ØÃ bal mu&Dvana ya k:vana|

ÙÃ Alivda: tvaf> krna|

ÙÃ hJj ka trIk>a^

ÓÃ hJj ka ;rada krne vale ke
 ilye suNnt hE ik vh ACvI trh nhaye,
 ijs p/kar "g>uSle jnabt" •sM-og ke bad
 ka Snan- ikya jata hE| sr AOr dav>I
 Aaid bdn me& sOg&. lgaye| dO sf>ed
 kpD>e @k cadr AOr @k lu&gI phne| AOrt
 jo kpD>e cahe phn sktI hE leikn yh
 =tR hE ik wsse [&gar ³ara be pdRgI n
 hotI ho|

ÔÃ ifr jb mIk>at pr phu%ce AOr
 f>jR> nmaj> ka smy n ho to "vujU kI
 suNnt" kI inYyt se do rkAt nmaj> Ada
 kre, ";hram kI suNnt" kI inYyt se
 nhI&| ;silye ik nbI ﷻ se ;hram ke
 ilye ko: suNnt saibt nhI& hE|

ÕÃ jb nmaj> se f>airg> ho jaye&
 to hJj me& dai`>l hone kI inYyt kre&|
 Agr "tmTtoA" hJj kr rha ho to yh
 khe^ (ليك اللهم عمرة), AOr yid "hJje ik>ran"
 kr rha hE to yh pv>e^ (ليك اللهم حجًا في عمرة),
 AOr yid "hJje ;F>rad" kr rha hE
 to yh pv>e^ (ليك اللهم حجًا), | mdR W%cI
 Aavaj> se jbk AOrt .ImI Aavaj> se
 khe&gI| Ai.k se Ai.k tlibya pukarna
 suNnt hE|

ÖÃ mKka =rIf> phu%cne pr phle
 tvaf> kre| "**hjr Asvd**" se tvaf> AarM-
 kre| kAba ko Apne ba&ye AOr kr le|
 hjre Asvd ke pas phu%cne pr wsko cUme

ya wska ;iStlam kre| •yanI Apne da&ye
ha9 se wse ru@e|- yid yh .Kka ke bg>Er
sM-v ho ske to •Ik, vrna wskI trf>
;=ara krke (الله أكبر) khe AOr yh pv>e^

(اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك)

Anuvad^ •@e ALlah tuz pr :man r`te
hu@e, terI iktab kI pErvI krte hu@e,
tere vcn ko pUra krte hu@e, AOr tere
nbI kI suNnt kI AnukMpa krte hu@e mE&
yh kam kr rha hU%&|-

sat cKkr tvaf> kre AOr jb ``Kne
ymanI" ke pas se guj>re to wska
;iStlam kre, A9Rat wse ru@e lEikn
wsko ya ha9 ko n cUme|

tvaf> kI @k suNnt yh hE ik AadmI
"tvaf>e k>udUm" •Aagmn ke smy ka
tvaf>- me& phle tIn cKkro& me& "**rml**"
kre •rml ka A9R hE jLdI jLdI cle|
;skI dlIl ;Bne wmr kI "mu]fk> AlEih"
•bu`>arI muiSIm- kI hdIs hE^ ALlah ke
rsUl ﷺ jb phla tvaf> krte to tIn bar
tej> clte j bik =eq car me& sa.arA cal
se clte|

tvaf> kI @k suNnt "**;iJ>tbaA**" hE
ijska A9R hE ik ApnI cadr ko ApnI
dayI& bg>l ke nIce kr le j bik dUsrI
trf> Apne baye& kN.e ke Wpr dono&
trf> se Dal le| ;skI dlIl ;Bne ABbas
valI hdIs hE^

(اضطبع رسول الله ﷺ هو وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط)

Anuvad ^ •Allah ke rsUl ﷺ, AOr Aapke shaba ne ";iJ>tbaA" ikya AOr tIn cKkr "rml" ikya|-

" ;iJ>tbaA" kevl tvaf> ke sat cKkro& me& suNnt hE wske pUvR t̄a p+cat nhI&|

tvaf me& ijs cIj> kI -I cahe idl kI haijrI, AOr -y ke sā duAa ma&ge, t̄a `kne ymanI AOr hjreÃAsvd ke bIc yh duAa pv>e^

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٠١].

Anuvad ^ «@e hmare palnhar! hme& ;s duinya me& -la: p/dan kr| AOr p/lok me& -I -la: p/dan kr AOr hme& nrk kI yatna se bca de|» •sUr† bk>ra, Aayt^ ÔÒÓ-

p/Tyek cKkr ke ilye duAa iv=eq krna yh rsUl ﷺ kI suNnt nhI& hE, biLk ibdAt hE| •yanI ;Slam .mR me& ApnI trf> se n: cIj> dai`>l krna hE|-

➤**tvaf> kI tIn ik>Sm hE&^**

ÓÃ ;f>aj>a,

ÔÃ k>udUm,

ÕÃ ivdaA,

;nme& phla tvaf> `Kn hE, dUsra suNnt hE, AOr tIsre ke bare me& •Ik bat yhI hE ik vaijb hE|

×Ã tvaf> `>Tm krne ke bad
"mk>ame ;b/ahIm" ke pIve do rkAt
 nmaj> pv>e| ws se dUr ho to -I ko:
 bat nhI& hE| phlI rkAt me& (قل
 (قل هو الله أحد) AOr dUsrI rkAt me& (يا أيها الكافرون)
 pve>| ;n dono& rkAto& ko hlkI krke
 pv>na suNnt hE|

ØÃ ifr sf>a AOr mrva phaD>I ke
 bIc sat cKkr s: kre| sf>a se AarM-
 kre AOr mrva pr `>Tm kre| sf>a phaD>I
 pr phu%cte smy yh pv>na suNnt hE^
 ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
 بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٥٨].

Anuvad^ «be=k sf>a •pvRt- @v& mrva
 •pvRt- ALLah •tÜala- kI in=ainyo& me&
 se hE&| ;silye ALLah ke ۳r ka hJj t9a
 wmra krne vale pr ;NkI pirk/ma kr
 lene me& ko: hrj nhI& hE| ApnI
 p/sNnta se pu*y krne valo& ka ALLah
 sMman krta hE t9a wNhe& -lI -a&it
 janne vala hE|» •sUr† bk>ra, Aayt^
 Ó×Ú-

;s Aayt ke sa9 yh -I pv>e^

(أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ)

A9Rat^ •mE& ws •phaᵛ>I- se AarM- krta
 hU% ijs se ALLah ne AarM- ikya
 hE, •yanI sf>a phaᵛ>I se|-

ifr sf>a phaD>I pr cv>e AOr Apne
dono& ha9o& ko w9a kr ik>bla kI Aor
mu%h krle, ifr ALLah kI @kta AOr wskI
bD>a: byan kre t9a wskI p/=&sa kre
AOr yh khe^

(اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده لا شريك له، له الملك، وله
الحمد، يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده، أنجز وعده، ونصر عبده،
وهزم الأحزاب وحده)

ifr duinya AOr Aai`>rt kI -la:
kI jo ;C9a ho ma&ge t9a yh duAa tIn
bar duhra@e| ifr mrva ka ``> krte
hu@e nIce wtrel| pu'qo& ke ilye suNnt
hE ik ÑAgr AasanI se AOr bg>er iksI
ko kQ; phu%caye sM-v ho ske toÑ hrI
in=ainyo& ke bIc do9> kr cle&|

mrva phaD>I pr phu%cne ke bad ws
pr cv>e ik>bla ``> ho, AOr Apne dono&
ha9o& ko w9a kr wsI p/kar duAa ma&ge,
ijs p/kar sf>a phaD>I pr ma&gI 9I|

Agr s: me& (رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ)
pv> kr duAa ma&ge to ko: hrj nhI&|
;silye ik yh ;Bne wmr AOr ;Bne msWd
se saibt hE| piv{ hona muSthBb
•svor]m- hE| yid bg>er piv{ta ke s:
kre to -I s: ho jayegI| Agr mahvarI
•M.C.- valI AOrt s: kre, to wskI -I s:

ho jayegI | ;silye ik s: me& piv{ta
=tR nhI& hE |

ÚÃ j b s: mukMml ho jaye to **"hJje
tmTtoA"** krne vala Apne sr ke bal ko
ka'e ya k'vaye | j b ik AOrt w%gLI ke
por ke sman bal k'vayegI | AOr Agr
"hJje ik>ran" ya **";F>rad"** krne vala
ho to ku>rbanI ke idn **"jmraÃ@eÃAk>ba"**
ko k&krI marne ke bad hlal hone tk
;hram me& bak>I rhega |

ÚÃ Aa°vI& ij>lihJja •trivya ke
idn- "hJje tmTtoA" krne vala, ;sI trh
hJj ka ;rada r`ne vala mKka vasI,
p/at# kal Apne ʔr se hI ;hram
ba%.e&ge | ;hram ba%.te smy Snan,
piv{ta Aaid cIj>e& krega | ;hram
ba%.ne ke ilye miSjd hram jana suNnt
nhI& hE | ;silye ik ;s ivqy me& n to
Aap se ko: huKm Aaya hE, AOr n hI
hmare }an ke Anusar Aap ﷺ ne Apne
shaba ko ;s ka huKm idya ʔa |

hdIs kI do shIh iktab^ bu`>arI
tʔa muiSlm me& jaibr ibn ABduLlah kI
hdIs hE ik nbI ﷺ ne shaba se f>rmaya^
"hlal rho yha% tk ik j b trivya •Ú
ij>lihJja- ka idn Aajaye to hJj ka
;hram ba%.na |-

muiSlm kI hdIs hE, jaibr ibn
ABduLlah ﷺ irvayt krte hE& vh khte
hE& ik^ "j b hmne ;hram ba%.ne ka ;rada
ikya to nbI ﷺ ne hme& huKm idya ik hm

imna jaye to ;hram ba%e| ;silye hm
ne "Abth" •@k S⁹an ka nam- se ;hram
ba%a| yh bat yad rhe ik Ab "hJje
tm]oA" krne vala ;hram ba%te smy yh
khega[^] (ليک حجاً) •yanI @e ALLah! me& hJj
ke ilye haijr h%U&|-

ŪÃ imna jakr j>uh\r, As/,
miG>rb,AOr ;=a kI nmaj> bg>Er jma
ikye k>s/ •Aa'a krke- p^v>na muSthBb
•svor]m- hE| ;sI trh shIh muiSlm
=rIf> me& jaibr kI hdIs ke Anusar
Arf>a kI rat imna me& guj>arna -I
muSthBb hE|

ÓÒÃ nvI& ij>lihJja ko Arf>a ke
idn sUyR wdy ho jaye to Arf>a kI AOr
cl pD>e| AOr Agr AasanI se sM-v ho
ske to dophr ho jane tk "**nimra**" vadI
me& °hrna muSthBb hE| ;silye ik nbI 𐤎
ne @Esa hI ikya ⁹a| yid AasanI se sM-
v n ho ske to Arf>a me& hI khI& wtr
jaye, ;sme& ko: hrj kI bat nhI& hE|

AOr sUyR ke ptn ke bad ju>h\r
As/ kI nmaj> dO dO rkAt jma krke
p^v>e| ifr Arf>a me& Apne °hrne kI jgh
cla jaye|

"**jble rhmt**" ko Agr AasanI se
Apne AOr ik>ble ke bIc krna sM-v ho
to @Esa krna svor]m hE| AOr Agr sM-v
n ho to ik>bla kI trf> ``> kre ytip
pvRt kI Aor n kr ske|

smy ko kevl ALLah ke ij>k/ ke
 ilye `>alI kr lena, Ai•k se Ai•k
 igD>igD>ana, Apne dono& ha⁹o& ko w^oa
 kr duAa krna AOr ku>rAan =rIf> Aaid
 p^v>na muSthBb hE|

;skI dlIl wqman kI hdIs hE| vh
 khTE hE&^

(كنت رديف النبي ﷺ بعرفات فرجع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها،

فتناول خطامها بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى) (رواه النسائي)

Anuvad^ •mE& Arf>a me& nbI ﷺ kI
 svarI pr pi^ve svar ⁹a, Aap Apne dono&
 ha⁹o& ko w^oa kr duAa krne lge| Aap
 kI W%⁹nI cl pD>I to wskI nkel igr
 gyI, Aap ne Apne @k ha⁹ se nkel ko
 w^oaya jBik dUsre ha⁹ ko w^oa@ r`a|
 •;se nsa: ne irvayt ikya hE-

AOr shIh muiSIm me& Aaya hE^

(و لم يزل واقفا يدعو حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة)

Anuvad^ •Aap ﷺ brabr `D>e duAa krte
 rhe yha% tk ik sUyRaSt ho gya AOr
 pIlapn `>Tm ho gya|-

Arf>a ke idn duAa krna sbse AC^vI
 duAa hE| nbI ﷺ ka f>rman hE^ sb se
 AC^vI duAa Arf>a ke idn kI duAa hE|
 AOr sb se AC^vI bat ijse mE& ne AOr
 muz se phle nibyo& ne kha hE vh yh
 hE^

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) (رواه

مسلم)

Anuvad ^ •ALLah ke ;lava ko: sCca
mabUd nhI&, wska ko: saZI nhI&, wSI
ke ilye bad=aht AOr hr p/kar kI
p/=&sa hE, AOr vh hr cIj> pr k>ud\rt
r`ta hE|- •shIh muiSlm-

hajI ko caihye ik ALLaah ke
samne f>k>IrI Aav+ykta t⁹a kmtrI p/k^ε
kre AOr ;s mhan\ f>urst ko brbad n
kre| nbI ﷺ ka f>rman hE^

(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، ثم

يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء) (رواه مسلم)

Anuvad ^ •ALLah tÜala ijs idn sb se
Ai·k bNdo& ko nrk se muKt krta hE vh
Arf>a ka idn hE| ALLah tÜala ;s idn
smIp Aakr f>ir+to& ke samne gvR se
khta hE^ ;n logo& kI Kya ;C⁹a hE?-
•;se muiSlm ne irvayt ikya hE|-

Arf>a me& °hrna `Kn hE| AOr
sUyRaSt hone tk °hrna vaijb hE| hajI
pr j>”rI AOr vaijb hE ik vh in+cy tOr
pr Arf>a kI sImaAo& ko jan le| ;silye
ik bhut se hajI sustI se kam lete hE&
AOr Arf>a ke bahr °hre rhte hE&| @Ese
logo& ka hJj nhI& hota|

ÓÓÃ jb sUyRaSt ho jaye to =aiNt
se muj>dilf>a kI Aor cl de| ;silye ik
nbI ﷺ ka f>rman hE^

(أبها الناس! السكينة، السكينة) (رواه مسلم)

Anuvad ^ •@e logo! =aiNt se, =aiNt
se|- •;se muiSlm ne irvayt ikya hE|-

jb muj>dilf>a phu%c jaye to vha%
miG>rb AOr ;=a kI nmaj> @k hI smy me&
Ada kre| miG>rb kI tIn rkAt AOr ;=a
kI dO rkAt p^>e|

hajI ke ilye suNnt hE ik ALLah
ke rsUl ﷺ kI Anu=&sa krte hu@e ;Nhe&
muj>dilf>a hI me& Ada kre| lEikn Agr
;=a ke smy ke inkl jane ka Dr ho to
jha% khI& -I mOk>a imle p^> le|

muj>dilf>a me& Aakr rat guj>are|
AOr ;s rat ko nmaj> Aaid me& n
ibtaye| ;silye ik nbI ﷺ ne @Esa nhI&
ikya| ;mam muiSlm ne jaibr ibn
ABduLLah kI hdIs irvayt kI hE ik nbI
ﷺ muj>dilf>a Aaye vha% miG>rb AOr ;=a
kI nmaj> @k Aj>an AOr dO ;k>amt se
Ada kI| AOr ;n dono& ke bIc iksI
ik>Sm kI tsbIh Aaid nhI& p^>I| ifr
Aap ﷺ leꞫ gye yha% tk ik f>j/ wdy ho
gyI|

wj>/ AOr yacna valo& t⁹a dubRl
logo& ke ilye jayj> hE ik vh k&krI
marne ke ilye muj>dilf>a se imna,
Aa•I rat AOr cNd/ma i²pne ke bad cle
jaye&| lEikn jo dubRl n ho& AOr n hI
dubRl ke sa⁹ ho& to vh muj>dilf>a me&
f>j/ wdy hone tk °hre rhe&e|

Aaj kl bhut sare log AasanI AOr
Aaram kI `>aitr rat ke phle -ag me&

"**rmI**" ke ilye jo dOD> -ag krte hE& yh ALLah ke rsUl kI Anu=&sa kI mu`>alf>t hE|

hajI f>j/ kI nmaj> muj>dilf>a me& Ada krne ke bad ik>bla kI Aor ho kr "**m=Are hram**" ke pas °hra rhe| ALLah tÜala se Ai·k se Ai·k ha⁹ w^oa kr duAa@e& kre yha% tk ik p/at# AC²I trh wJjvl ho jaye| hajI muj>dilf>a me& khI& -I °hr skta hE, Kyo&ik nbI ۞ ka f>rman hE^

(وقت هاهنا وجمع کلها موقف) (رواه مسلم)

Anuvad^ •mE& yha% °hra hU%, AOr "jMA" •yanI muj>dilf>a- pUra ka pUra "mOik>f" •°hrne kI jgh- hE|- •;se muiSIm ne irvayt ikya hE|-

ÓÔÃ ifr hajI log ku>rbanI ke idn sUyoRdy hone se pUvR imna ko cle jaye&| "jmraÃ@ÃAk>ba" •yh bD>a jmra hE jo mKka ke smIp pD>ta hE- ko sat k&kiryô& se mare&| p/Tyek k&krI cne ke dane se °oD>I bD>I honI caihye| "wlma" •iv³an log- ;s bat pr s&gi^ot hE& ik ;skI rmI p/Tyek d=a se jayj> hE| lEikn svoR[eQ^o yh hE ik kaba ko Apne baye&, jbik imna ko Apne daye& kr le| ;skI dlIl ;Bne msWd kI yh hdIs hE^

(إِنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمَنِ عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعِ

وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) (متفق عليه)

Anuvad ^ •vh bD>e jmra ke pas phu%ce
to wNho&ne kaba ko bayI&, AOr imna ko
dayI& trf> krke sat k&krI marI& AOr
kha^ ;sI p/kar wNho&ne marI ^I& ijn
pr sUr† "bk>ra" Aavtirt hu: ^I|- •;se
bu`>arI t^a muiSIm ne irvayt ikya
hE|-

bD>I k&krI, ;sI p/kar moj>o&, AOr
jUto& Aaid ^ara rmi jayj> nhI&
hE| hajI "jmra@Ak>ba" kI rmi ke smy
tlibya pukarna bNd kr dega|

suNnt yh hE ik hajI phle rmi
kre, ifr k>urbanI kre| •yh "hJje
tm]oA" A^va "ik>ran" krne vale ke sa^
>as hE|- ifr bal mu&Dvaye ya k^vaye,
leikn Aadmi ke ilye mu&Dvana AF>j>l
•svor[eQ^o- hE| ;silye ik nbI ڤ ne
mu&^vane valo& ke ilye tIn bar, AOr
k^vane valo& ke ilye @k bar rhmt v
mg>if>rt kI duAa kI ^I| jEsa ik
bu`>arI AOr muiSIm ne irvayt ikya hE|
ifr hajI kaba jakr "**tvaf>e ;faj>a**"
kre&|

yhI suNnt hE ;silye ik jaibr ibn
ABduLLah kI hdIs hE ijse muiSIm ne
irvayt ikya hE| ;sme& hE ik^ nbI ڤ
jmra ke pas Aaye jo "=jrh" •peD>- ke
pas hE AOr sat k&kiryo& ^ara wskI rmi
kI| p/Tyek k&krI ke sa^ "**Allahu Akbr**"
khte| Aap ne "**btnulvadI**" se rmi kI
ifr ku>rban gah kI trf> inkl gye AOr

ku>rbanI kI| ifr Aap svar huye AOr
kaba jakr tvaf>e ;f>aj>a ikya| AOr
ju>h\r kI nmaj> mKka hI me& Ada kI|

ijs ne hJj ke ;n caro& kamo& ko
@k dUsre se Aage pIYe kr idya to ws
pr kuY gunah nhI& hoga| ;silye ik
bu`>arI t⁹a muiSlm ne **"hJjtul ivdaA"**
•AiNtm hJj- ke ivqy me& ABduLlah ibn
wmmr kI hdis ko irvayt ikya hE| ALLah
ke rsUl ﷺ ohre huye ⁹e, AOr log Aap
se p/+n kr rhe ⁹e| Aap ne f>rmaya^
ALLah ke rsUl ﷺ se ws idn ijs ne -I
hJj ke kamo& ko @k dUsre se Aage pIYe
kr dene ke bare me& pU⁹a, Aap ﷺ ne ws
se yhI f>rmaya ik^ kro, ko: hrj kI
bat nhI&|

hajI jb kaba ka tvaf> kre to Agr
"hJjeÃ tm]oA" kr rha ho to "tvaf>" ke
bad "s:" kregal ;silye ik wskI phlI
"s:" wmra kI ⁹I| Ab ws pr hJj kI s:
krna AinvayR hogI| AOr Agr "hJjeÃ
;f>rad" ya "ik>ran" kr rha ho, AOr
wsne "tvaf>eÃ k>udUm" ke bad s: kr lI
hE to Ab dObara s: nhI& kregal ;silye
ik jaibr ﷺ ka khna hE ik nbI ﷺ AOr
Aap ke shaba ne sf>a AOr mrva ke bIc
kevl @k tvaf> "tvaf>e AVvl" ikya ⁹a|
•;se muiSlm ne irvayt ikya hE-

ÓÓÃ jo VyiKt imna se jLdI n jana
cahe to ws ke ilye t=rIk> ke tIn idn
•gyarhvi&, barhvi& AOr terhvi&

ij>lihJja- rmI ke idn hE&e| lEikn jo
jLdI krke inklna cahe to vh kevl dO
idn gyarhvi& AOr barhvi& ko hI rmI
kregal ;silye ik ALLah tÜala ka
f>rman hE^

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٠٣].

Anuvad^ «AOr ALLah tÜala kI yad wn
g^na ke ku^ idno& •t=rIk> ke idn- me&
kro| jo VyiKt dO idn me& hI cla jaye
to ws pr ko: pap nhI&| AOr jo •tIsre
idn ke ilye- pI^e rh jaye, ws pr -I
ko: pap nhI&, yh prhej>gar
•mhanVyiKt- ke ilye hE|» •sUr† bk>ra,
Aayt^ ÔÔÕ-

hajI AarM- me& "phle jmra" •yh
miSjd `>ef> ke smIp pD>ta hE- kI sat
k&kiryô& 'ara rmI kregal ifr bIc vale
kI sat k&kiryô& se rmI kregal ifr
"jmraÃ@ÃAk>ba" kI sat k&kiryô& se rmI
krega t^a p/Tyek k&kiryô& ke sa^
"ALLahu Akbr" khega|

phle, AOr dUsre jmra kI "rmI" ke
bad ik>bla ``> ho kr t^a ;Nh&e Apne
baye& krke lMbI duAa@e& krne ke ilye
^hrna suNnt hE| lEikn "jmraÃ@ÃAk>ba"
ke bad duAa ke ilye nhI& ^hrega|

sUyR ptn ke bad rmI ka smy AarM-
hota hE| ;skI dlIl ;Bne wmr kI hdIs
hE vh khte hE^

(کنا نتحین، فإذا زالت الشمس رمینا) (رواه البخاری)

Anuvad ^ •hm smy de`te rhte, jb sUyR
ptn ho jata to rmI krte- •;se bu`>arI
ne irvayt ikya hE|-

Aailm log ;s bat pr s&gi°t hE&
ik t=rIk> ke idno& me& rmI ka AiNtm
smy terhvI& ij>lihJja ko sUyRaSt tk
hE| AOr jo VyiKt ;s idn rmI nhI& kr
paye AOr sUyRaSt ho jaye to ;ske bad
rmI nhI& krega, biLk Ab wse dm •`Un
A⁹Rat bkrI Aaid- k>urbanI me& dena
hogI|

ÓÖÃ hajI log t+rIk> kI gyarhvI&
AOr barhvI& rat imna me& guj>are&ge,
Agr barhvI& tarI`> ka sUyRaSt ho jaye
AOr vh imna se n inkle ho& to wn pr
imna me& `kna AOr rat guj>arna
AinvayR hoga| AOr terhvI& tarI`> ko -
I k&krI mare&ge|

Ó×Ã jb hajI mKka se inklna cahe
to vh "**tvaf>e ivdaA**" •AiNtm tvaf>-
krne ke bad hI inkle| ;silye ik
Ai•ktr iv³ano& ke smIp yh hJj ke
vaijbat me& se hE| leikn vh AOrt ijse
mahvarI ka `>Un Aa rha ho ws pr
"tvaf>e ivdaA" j>"rI nhI& hE| ;skI
dlI| ;Bne ABbas valI hdIs hE, vh khte
hE& ik nbI ﷺ ne f>rmaya^

(لا ینفرن أحد حتى یكون آخر عهده بالیبت، وفي رواية: إلا أنه خفف عن المرأة)

(الحائض) (رواه مالك وأصله في صحيح مسلم)

Anuvad ^ • jb ko: hajI p/Sʻan krna cahe to wska Aai`>rI smy `>ana kaba ke saʻ hona caihye| AOr @k irvayt me& hE ik^ mahvarI valI AOrt se Aap ﷺ ne AasanI kr dI hE|- • ;sko ;mam mailk ne irvayt ikya hE, AOr ;skI Asl shIh muiSlm me& hE|-

Ai.ktr iv³ano& ka khna hE ik jo "**tvaf>eĀ ;f>aj>a**" ko ApnI AiNtm ya{a tk ivlMb ikye r`e vh "**tvaf>e ivdaĀ**" n -I kre to ko: hrj nhI& hE|

ÓĀ hJj se loʻne vale ke ilye yh duAa pv>na ACʻa hE ijse ;mam bu`>arI ne ;Bne wmr ﷺ se irvayt ikya hE ik jb nbI ﷺ yu², hJj Aʻva wmra se loʻte to W%cI jgh pr cv> kr (الله أكبر) •Allahu Akbr- khte, AOr ws ke bad yh pv>te^

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آتبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)

Anuvad ^ • Allah ke AitirKt ko: sCca wpasna yoGy nhI&, vh @k hE, wska ko: =rIk AOr saZI nhI&| wSI ke ilye bad=aht hE| wSI ke ilye p/=&sa hE| vh p/Tyek vStu pr p/-uTv=alI hE| hm loʻne vale, p+catap krne vale, Apne rb ke wpask AOr p/=&sa karI hE&| Allah ne Apna vcn sc kr id`aya, Apne

bNde kI shayta kI AOr wsI ne sMpU^R
igroho& ko prajy kr idya|

ختم شد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



ivqy sUcI

ivqy

p<Q° n&...

do =Bd

✻ ;Slam k phla `Kn

•Ó- (لا إله إلا الله) kI gvahI dene ka

A^R^

•Ô- kilma Ñ@eÑ tOhId kI

=te&R^

Ô

Ö

×

ú

óô

óô

óô

aqa^ >tOhIde wLUihYyt kI pir- óØ
 >;s tOhId ke nam^ ôÓ
 >;ska huKm
 •Õ- "muhMmd ﷺ ALlah ke rsUl hE&" kI ôÕ
 gvahI dene ka A᳚R^
 •Ö- dono& =hadto& kI f>j>Ilt ôÖ
 AOr [eQ°ta^ ôØ
 ôØ
 ôÙ

*** ;Slam ka dUsra `Kn**

"nmaj>"^

•Ó- nmaj> kI pir-aqa^ ôÛ
 •Ô- nibyo& AOr rsUlo& ke nj>dIk> nmaj> ôÛ
 ka mhTv^ ôÒ
 •Õ- nmaj> kI m=":yt kI dlIl^ ôÕ
 ÓÃ ku>rAan se dlIl^ ôÕ
 ÔÃ hdIs •suNnt- se dlIl^ ôÕ
 ÔÃ ";jmaA" •A᳚Rat‡ muiSIm ôÕ
 iv³ano& ôÕ
 ka iksI dInI bat pr ôÕ
 s&gi°t hona- ôÕ
 •Ö- nmaj> kI "m=";Yyt" ôÕ
 •×- nmaj> ikn logo& pr f>jR> ô×
 ôØ
 •Ø- nmaj> ᳚oD>ne vale ka ôÙ
 huKm^ ôÛ
 •Ù- nmaj> kI =tRe&^ ôÛ
 •Ú- nmaj> p᳚>ne ke smy^ ôÒ
 •Ó- juh\r kI nmaj> ka

smy [^]		Öx
	•Ô- As/ kI nmaj> ka smy [^]	ÖØ
	•Õ- migrb kI nmaj> ka	ÖØ
smy [^]		ÖÜ
	•Ö- ;=a kI nmaj> ka smy [^]	ÖÛ
	•x- f>j/ kI nmaj> ka	xÓ
smy [^]		xÓ
	•Û- nmaj> kI rkAto& kI	xÖ
s&~ya [^]		xÛ
	•ÓÒ- nmaj> ke f>j>R [^]	ØÒ
	•ÓÓ- nmaj> me& vaijb cIj>e&	
	•ÓÔ- jmaAt kI nmaj> [^]	ØÓ
	•ÓÕ- nmaj> ko Vy [^] R kr dene	ØÕ
valI		ØØ
	•ÓÖ- vh smy ijn me& nmaj>	
.....		ØÛ
	•Óx- nmaj> kI AdaygI kI	ÛÒ
s&ixPt ivi [^]		ÛÒ

✿ ;Slam ka tIsra `Kn		ÛÓ
"j>kat"[^]		ÛÖ
	•Ó- j>kat kI pir-aqa [^]	Ûx
	•Ô- j>kat ka mhTv AOr	ÛÜ
	•Õ- j>kat ka huKm [^]	ÛÒ
	•Ö- j>kat kI AinvayRta kI	
=tRe& [^]		ÛØ
	•x- j>kat vale mal [^]	ÛÜ
	➤phlI ik>Sm [^] sone AOr	ÛÜ
ca&dI [^]		
	➤dUsrI ik>Sm [^] janvro&	ÛÛ
me& j>kat,		ÛÓ

- =aS{anusarta kI ihk\mt^
- Ö- hJj ke f>j>R hone kI
=te&R^
 - hJj me& p/itin•Tv ka
huKm^
 - dUsre kI trf> se hJj
krna^
 - Kya hJj ko ivl&b kr skte
hE&?
 - ×- hJj ke Arkan^
 - ;hram kI pir-aqa^
 - mIk>ato& ka Byan^
 - ;hram ba%•ne ka trIka>^
 - hJje tm]oA kI pir-aqa^
 - hJje ik>ran kI pir-aqa^
 - hJje ;F>rad kI pir-aqa^
 - ;hram me& vijRt cIj>e&^
 - Ø- hJj ke vaijbat^
 - Û- hJj ka trIk>a^
 - tvaf> kI ik>Sme&^

✽ ivqy sUcI^